

ندائے پارسوں! اللہ

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْنَا وَسَلَّمْ

الِاسْتِعَانَةِ وَالْتِمُسْلِ

اسم کتاب



اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس العزیز

محمد عبدالحکیم شہرہ ن قادری


4103



4103

مرکزی مجلس برینا (خبر)

پوسٹ بکس ۲۲۰۶ لاہور



S-369-- Punjab University Press 10,000 - 29-1-2003

ندائے پارسوں! اللہ

صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِكَ

الْاِسْتِغَاثَةُ وَالنُّوْشُ

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ العزیز
محمد عبدالحکیم شرف قادری

مرکز کی مجلسِ رضا (حقیقی)
پوسٹ بکس ۲۲۰۶ لاہور

سلسلہ مطبوعات مرکزی مجلس رضا پبلسٹری لاپور (۶۶)

رسالہ _____ (۱) انوار الانبیاء فی سبیل نداءِ یارسول اللہ

(۱۳۰۴ھ)

المعروف نداءِ یارسول اللہ

~~87385~~

(۲) استعانت و توسل

87385

تصنیف _____ امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ

محمد عبدالحکیم شرف قادری

تخریج و تحقیق (رسالہ ۱) _____ مولانا اظہار اللہ بزاروی

کتابت _____ (۱) مولانا شاہ محمد قصوری (قصور)

(۲) محمد عاشق حسین ہاشمی (چنیوٹ)

تصحیح _____ محمد عبدالحکیم شرف قادری

تاریخ اشاعت _____ جمادی الثانیہ، مارچ ۱۴۰۵ھ / ۱۹۸۵ء

تعداد _____ چار ہزار

مطبع _____ محمود ریاض پبلسٹری لاپور

ناشر _____ مرکزی مجلس رضا، لاپور

ہدیہ _____ دعائے خیر بحق معاونین مجلس رضا

ملنے کا پتہ

مرکزی مجلس رضا، پوسٹ بکس ۲۲۰۶ لاپور

نوٹ: بیرون جات کے احباب ایک روپے کے ڈاک ٹکٹ بھیج کر طلب کریں۔



فہرست

۵۰۔	وصال کے بعد تو تسلی	۵۔	استغانت
۵۵۔	اجماع صحابہ	۵۔	امام احمد رضا کا عقیدہ استمداد
۵۹۔	تو تسلی اور ائمہ اربعہ	۶۔	استغانت اور تو تسلی ایک ہی شے ہے
۶۱۔	تو تسلی اور ائمہ اعلام	۷۔	اقسام نسبت
۶۶۔	تو تسلی اور امام ابن الحاج	۱۱۔	قول فیصل
۷۱۔	تو تسلی اور اہل حدیث کے مسلم علماء	۱۲۔	استغانت اور قرآن
۷۳۔	تو تسلی اور علماء دیوبند	۱۳۔	نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استغانت
۷۶۔	تو تسلی اور عالم اسلام کے موجودہ علماء	۱۷۔	نواب وحید الزماں اور مسئلہ استغانت
۸۵۔	قیامت کے دن تو تسلی	۲۷۔	اعرابی کا استغانت
۸۶۔	ارباب ولایت سے تو تسلی	۲۹۔	تخریف معنوی
۹۵۔	صلوۃ غوثیہ	۳۷۔	تو تسلی
۹۹۔	رسالہ مبارکہ، انوار الانتساب فی حلی نداء یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم	۳۸۔	{ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اعمال اور ذوات کو وسیلہ بنانا }
		۴۱۔	حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تو تسلی
		۴۱۔	ولادت باسعادت سے پہلے تو تسلی
		۴۳۔	حیات ظاہرہ میں تو تسلی

ولالوم الذى ملأت عظمتہ السموات والأرض الذى (۱) عنت له الوجوه
 وخشعت له الأصوات (۲) ووجلت القلوب من خشيته : أن تصلى على محمد
 ﷺ وأن تعطيني حاجتي رهي كذا وكذا فإنه يستجاب له إن شاء الله
 تعالى ، قال وكان يقول ، لا تعلموا سفهاءكم لئلا يدعوا به في ماثم أو
 قطيعة رحم .

(وأما حديث أبي الدرداء)

۱۰۷ - فقال الطبرانی فی المعجم الكبير حدثنا محمد بن علی بن حبیب
 الطرائنی الرقی حدثنا محمد بن علی بن مبعون حدثنا سليمان بن عبد الله الرقی
 حدثنا بقية بن الوليد عن إبراهيم بن محمد بن زياد قال : سمعت خالد بن
 معدان يحدث عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 « من صلى على حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدرکته شفاعتي » (۳) .

۱۰۸ - قال الطبرانی : حدثنا يحيى بن أيوب العلاف حدثنا سعيد بن
 أبي مریم عن خالد بن زيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الدرداء قال : قال
 رسول الله ﷺ « أكثروا الصلاة على يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده
 الملائكة ، ليس من عبد يصلى على إلا بلغنى صوته حيث كان . قلنا ، وبعد
 وفاتك ؟ قال : وبعد وفاتي . إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد
 الأنبياء » (۴) .

علامہ ابن قیم کی تصنیف جلاء الاسامیٰ من مکتبہ نوریہ رضویہ فیصل آباد کا صفحہ ۶۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

استعانت

انسان طبعی طور پر اپنی بقا اور زندگی گزارنے میں مخلوقِ خدا کی امداد کا محتاج واقع ہوا ہے اگر کوئی شخص کہے کہ میں کسی بھی مخلوق کی امداد کے بغیر زندہ رہنا چاہتا ہوں تو اسے یہی مشورہ دیا جائے گا کہ آپ موجودہ دور کی مہذب اور متمدن زندگی کو خیر باد کہہ کر پتھر اور غاروں کے دور میں چلے جائیے، جہاں نہ لباس سے غرض ہے نہ عمارت سے، نہ سواری میسر ہے اور نہ ہی زندگی کی دیگر سہولتوں کا تصور ہے۔

یاد رہے کہ کارسازِ حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ مخلوق میں سے جو بھی کسی کی امداد کرتا ہے، وہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی امداد ہے، بندہ تو اس کی امداد کا منظر ہے، ورنہ اگر کوئی چاہے کہ میں از خود عطائے الہی کے بغیر کسی کی امداد کروں، تو یہ ممکن نہیں ہے اور کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے کہ وہ از خود امداد کر سکتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی امداد و عطا کی ضرورت نہیں ہے۔

امام احمد رضا بریلوی کا عقیدہ استمداد

امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں،

”اس استعانت ہی کو دیکھئے کہ جس معنی پر غیر خدا سے شرک ہے، یعنی اسے قادر بالذات و مالک مستقل جان کر مدد مانگنا بایں معنی اگر وقع مرض میں طبیب یا دوا

سے استمداد کرے یا حاجتِ فقر میں امیر یا بادشاہ کے پاس جائے یا انصاف کرانے کو کسی کچہری میں مقدمہ لڑائے، بلکہ کسی سے روزمرہ کے معمولی کاموں میں مدد لے جو بالیقین تمام وہابی صاحب روزانہ اپنی عورتوں، بچوں، لوگوں سے کرتے کرتے رہتے ہیں، مثلاً یہ کہنا کہ فلاں چیز اٹھا دے یا کھانا پکا دے سب قطعی شرک ہے کہ جب یہ جانا کہ اس کام کے کر دینے پر خود انہیں اپنی ذات سے بے عطاۃ الہی قدرت ہے تو صریح کفر و شرک میں کیا شبہ رہا؟ اور جس معنی پر ان سب سے استعانت شرک نہیں، یعنی مظہر عیون الہی و واسطہ و وسیلہ و سبب سمجھنا، اس معنی پر حضرات انبیاء و اولیاء علیہم افضل الصلوات و التثانیہ سے کیوں شرک ہونے لگی؟ لہ

خلاصہ یہ کہ کسی بھی مخلوق کو اس طرح مستقل مددگار ماننا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی امداد و عطا کی محتاج نہیں ہے، شرک اور کفر ہے اور کسی مخلوق کو عطاۃ الہی کا مظہر اور وسیلہ رحمت باری تعالیٰ ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

استعانت اور توسل ایک ہی شے ہے

اللہ تعالیٰ مقصودِ اصل ہے، اسے وسیلہ نہیں بنایا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اشیاء خواہ وہ ذوات ہوں یا اعمالِ صالحہ کو وسیلہ بنانا جائز ہے اور ان سے استعانت بھی جائز ہے، کیونکہ توسل اور استعانت اگرچہ الگ الگ الفاظ ہیں، لیکن ان کی مراد ایک ہی ہے۔ امام علامہ تقی الدین سبکی فرماتے ہیں:

و اذ قد تحررت هذه الالوان والاحوال في الطلب
من النبي صلى الله عليه وسلم وظهر المعنى فلا عليك
في تسميته توسلا او تشفعا او استغاثة او تجوها

لہ احمد رضا بریلوی، امام، برکات الامداد (رضوی کتب خانہ، بریلو) ص ۲۹-۲۸

او توجھا لان المعنی فی جمیع ذالک سوا۔ لے
 ”جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی شے کے طلب کرنے کے احوال
 اور اقسام کا بیان ہو گیا اور مطلب ظاہر ہو گیا تو اب تم اس طلب کو توسل کہو، یا
 تشفع، استغاثہ کہو یا تجوہ یا توجہ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان سب کا مطلب
 ایک ہی ہے۔“

اقسام نسبت

علماء معانی نے اسناد نسبت کی دو قسمیں بیان کی ہیں :

(۱) حقیقت عقلیہ (۲) مجاز عقلی

حقیقت عقلیہ یہ ہے کہ فعل کی نسبت ایسی شے کی طرف کی جائے کہ بہ ظاہر متکلم کے

نزدیک فعل اس کی صفت ہو جیسے ”أَفْنَبَتَ اللَّهُ الْبَقْلَ“ (اللہ تعالیٰ نے سبزہ اگایا)
 سبزہ اگانا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ جب اس کی نسبت اس ذات قدوس کی طرف کی جائے
 گی، تو اسے حقیقت عقلیہ کہا جائے گا۔

مجاز عقلی یہ ہے کہ فعل جس کی صفت ہے، اس کی بجائے اس کے کسی متعلق کی طرف نسبت
 کر دی جائے اور ساتھ ہی کوئی علامت بھی پائی جائے کہ یہ نسبت موصوف کی طرف نہیں، بلکہ
 اس کے کسی متعلق کی طرف ہے، مثلاً فعل کی نسبت زمان، مکان یا سبب کی طرف کر دی جائے
 مثلاً ”بَنَى الْأَمِيرُ الْمَدِينَةَ“ (امیر نے شہر بنایا) حقیقت شہر کی تعمیر معماروں اور مزدوروں
 کا کام ہے، لیکن امیر چونکہ سبب ہے، اس کے کہنے پر شہر تعمیر کیا گیا ہے، اس لیے مجازاً تعمیر
 کی نسبت اس کی طرف کر دی گئی ہے۔

شفا السقام (مکتبہ نوریہ رضویہ، فیصل آباد) ص ۱۷۵

لے تقی الدین اسبکی، الامام،

مواہب لدنیہ مع شرح الزرقانی (المقصد العاشر) ج ۸، ص ۳۶

(ب) علامہ قسطلانی،

کا ایماندار ہونا اس بات کی علامت ہوگا کہ وہ شفا کی نسبت طیب کی طرف اس لیے کر رہا ہے کہ وہ شفا کا سبب ہے، اس لیے نسبت نہیں کر رہا کہ فی الواقع طیب نے شفا دی ہے شفا دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔

اس گفتگو پر غور کر لینے سے مسئلہ استعانت کی حیثیت بالکل واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ انبیاء و اولیاء سے مدد چاہنے والا اگر مومن ہے تو اس کا ایماندار ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس کے نزدیک کارساز حقیقی، مقاصد کا پورا کرنے والا، حاجتیں بر لانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ان امور کی نسبت انبیاء و اولیاء کی طرف مجاز عقلی کے طور پر کی گئی ہے کہ وہ مقاصد کے پورا ہونے کے لیے سبب اور وسیلہ ہیں۔

سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ ایتا کی نستعین کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

دیں جا باید فہمید کہ استعانت از غیر بوجہی کہ اعتماد بر آں غیر باشد و اورا مظہر عیون الہی نداند حرام است و اگر التفات محض بجانب حق است و اورا یکے از مظاہر عیون دانستہ و نظر بکارخانہ اسباب و حکمت او تعالیٰ در اں نمودہ بغیر استعانت ظاہر نماید دُور از عرفان نخواہد بود و در شرع نیز جہانزدہ رواست و انبیاء و اولیاء میں نوع استعانت بغیر کردہ اند و در حقیقت این نوع استعانت بغیر نیست بلکہ استعانت بحضرت حق است لا غیر۔

اس جگہ یہ سمجھنا چاہیے کہ غیر سے اس طرح استعانت حرام ہے کہ اعتماد اس غیر پر ہو اور اسے اللہ تعالیٰ کی امداد کا مظہر نہ جانے اور اگر توجہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اور اسے اللہ تعالیٰ کی امداد کا مظہر جانے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور کارخانہ اسباب پر نظر کرتے ہوئے اس غیر سے ظاہری استعانت کرنے تو یہ راہ معرفت سے دُور نہ ہوگا اور شریعت میں جائز اور روا ہے۔ اس قسم کی

تفسیر عزیز محدث دہلوی (افغانی دارالکتب دہلی) ج ۱، ص ۸

۱۰۰ عبدالعزیز محدث دہلوی

استعانت انبیاء و اولیاء نے غیر سے کی ہے۔ درحقیقت استعانت کی قسم غیر سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی سے ہے۔

مشہور اہل حدیث عالم نواب وحید الزمان لکھتے ہیں،

وضابطتہ ان الامور التي كانت تطلب من الانبياء
والصلحاء حال كونهم احياء مثل الدعاء او
الاستشفاع فطلبها منهم بعد موتهم لا يكون شركاً
الكبر والامور التي هي مختصة بالله وكانت لا تطلب منهم
وهم احياء فطلبها منهم بعد ان ماتوا يكون شركاً كما كان طلبها
عنهم وهم احياء شركاً الا ان يكون الاسناد حجازياً كما في
قول عيسى وأخي السموتى باذن الله صرح بذلك شيخ
الاسلام في بعض فتاواه۔ لہ

اس کا ضابطہ یہ ہے کہ جو امور انبیاء و اولیاء سے ان کی زندگی میں طلب کیے جاتے تھے، مثلاً دُعا اور شفاعت وہ ان کے وصال کے بعد طلب کرنا شرکِ اکبر نہیں ہوگا اور وہ امور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں اور ان حضرات کی زندگی میں ان سے طلب نہیں کیے جاتے تھے، ایسے امور کا ان سے ان کی وفات کے بعد طلب کرنا شرک ہے جیسے ان امور کا ان کی زندگی میں طلب کرنا شرک ہے، البتہ حجازاً نسبت ہو سکتی ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے اذن سے مُردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ شیخ الاسلام نے اپنے بعض فتاویٰ میں اس کی تصریح کی ہے۔

حجازی نسبت پر گفتگو کرتے ہوئے نواب صاحب مزید لکھتے ہیں،

وَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ وَشُبْرُجٍ
الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي فَأَسْنَدَ الْخُلُقَ وَالْإِبْرَاءَ
إِلَىٰ عِيسَىٰ مَجَازًا فَلَوْ طَلَبَ أَحَدٌ مِّنْ عِيسَىٰ رُوحَ اللَّهِ
أَنْ يُجِيبَ مَیْتًا بِإِذْنِ اللَّهِ فَلَا يَكُونُ شِرْكًَا أَكْبَرَ وَكَذَلِكَ
لَوْ طَلَبَ أَحَدٌ مِّنْ وَلِيِّ حَتَّىٰ أَوْ مِنْ رُوحِ نَبِيِّ أَوْ صَالِحٍ
أَنْ يَهَبَ لَهُ الْأَوْلَادَ أَوْ يَشْفِيَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ يَدْفَعُ
عَنْهُ سُوءًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَمْرِهِ فَهَذَا لَا يَكُونُ شِرْكًَا
أَكْبَرَ - له

”اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ
میں پیدا کرنے اور شفا دینے کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف مجازاً
کی گئی ہے۔ پس اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ رُوح اللہ علیہ السلام سے درخواست
کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے مُردے کو زندہ کریں تو یہ شرک اکبر نہ ہوگا۔
اسی طرح اگر کوئی شخص زندہ ولی سے یا نبی یا ولی کی رُوح سے یہ درخواست
کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اسے اولاد دیں یا اس کی بیماری دور
کر دیں، تو یہ شرک اکبر نہ ہوگا۔“

قول فیصل

اس تفصیل سے اچھی طرح واضح ہو گیا کہ انبیاء و اولیاء سے حصول مقاصد کی درخواست
کرنا شرک و کفر نہیں ہے، جیسے عام طور پر مبتدعین کا رویہ ہے کہ بات بات پر شرک اور کفر
کا فتویٰ جڑ دیتے ہیں۔

البتہ یہ ظاہر ہے کہ جب حقیقی حاجت روا، مشکل کشا اور کارساز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو احسن اور اولیٰ بھی ہے کہ اسی سے مانگا جائے اور اسی سے درخواست کی جائے اور انبیاء و اولیاء کا وسیلہ اس کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، کیونکہ حقیقت، حقیقت ہے اور مجاز، مجاز ہے یا بارگاہ انبیاء و اولیاء میں درخواست کی جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہماری مشکلیں آسان فرما دے اور حاجتیں بر لائے۔ اس طرح کسی کو غلط فہمی بھی پیدا نہیں ہوگی اور اختلافات کی خلیج بھی زیادہ وسیع نہیں ہوگی۔

استعانت اور قرآن

قرآن و حدیث کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام اور صحابہ کرام نے بوقت ضرورت مخلوقِ خدا سے مدد طلب کی ہے۔ چند آیات ملاحظہ ہوں:

(۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِّلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ۔ لہ

”اے ایمان والو! دین خدا کے مددگار ہو، جیسے عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کون ہیں جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کریں۔ حواری بولے ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان داروں سے اپنے دین کی مدد طلب کی ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے مدد طلب کی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام نصرتیں بلا واسطہ نازل فرمادیتا، لیکن اس کی عادت کریمہ جاری ہے کہ کارخانہ قدرت کا نظام مختلف اسباب اور وسائل سے وابستہ کر رکھا ہے، اس کا اس آیت میں اظہار ہے

۲- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّصِرُوا بِاللَّهِ يَنْصُرْكُمْ
وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ ۱

اے ایمان والو! اگر تم دینِ خدا کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا
اور تمہارے قدم جما دے گا۔

اس آیت میں یہ کام سب سے زیادہ مومنوں سے دین کی مدد طلب فرماتا ہے، اور
مومنوں کو سرفرازی حاصل کرنے کا موقع عطا فرماتا ہے،

۳- قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ

کہا وہ جس پر مجھے ہے رب نے قابو دیا، بہتر ہے تو میری مدد طاقت
سے کرو۔ (سکندر ذوالقربیٰ کا مقولہ)

۴- قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا

یوسف نے کہا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دے، بے شک میں حفاظت

والا، علم والا ہوں۔

زمین کے خزانوں پر مقرر کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کی، بلکہ بادشاہ وقت کو کہا گیا
ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے شرک کیا تھا؟

۵- قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعُرْسِي مَا قَبْلَ

أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ۚ ۱

”سیمان نے فرمایا اے درباریو! تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے

۱ پ ۲۶ محمد ۴۷ آیت ۶

۲ پ ۱۶ الکہف ۱۸ آیت ۹۵

۳ پ ۱۳ یوسف ۱۲ آیت ۵۵

۴ پ ۱۶ النمل ۱۶ آیت ۳۸

پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہوں۔“

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استعانت

اس سلسلے میں احادیث کا تشیح کیا جائے، تو وہ خاصا ذخیرہ فراہم ہو سکتا ہے۔ اس جگہ صرف ایک حدیث پر اکتفا کیا جاتا ہے:

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوءِهِ وَحَاجَّتِهِ فَقَالَ لِي سَلْ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَوْغَيْرِ ذَلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

”حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزارا کرتا تھا، آپ کی خدمت میں وضو کا پانی اور دیگر ضروریات کی چیزیں (مسواک وغیرہ) پیش کیں، تو آپ نے فرمایا مانگ میں نے عرض کیا میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ فرمایا اور کچھ عرض کیا میری مراد صرف یہی ہے۔ فرمایا تو میری امداد کر اپنے نفس پر کثرتِ سجدوں سے“

غور کیجئے! حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہِ رسالت میں اپنی دلی مراد کا سوال پیش کر رہے ہیں، جو ابنا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں منع نہیں فرماتے کہ تم مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو، جنت چاہیے تو خدا سے مانگو، میں کون ہوتا ہوں جنت دینے والا، بلکہ ان سے وعدہ فرمایا جاتا ہے، ان سے مدد و طلب کی جاتی ہے کہ سجدے کثرت سے ادا کرو، جنت میں تمہیں میری رفاقت عطا کر دی جائے گی۔

لے شیخ ولی الدین الخطیب، مشکوٰۃ شریف (اتحاج لیم سعید کمپنی، کراچی)، ص ۸۲

حضرت ملا علی قاری اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں:

وَيُؤَخَذُ مِنْ إِطْلَاقِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْأَمْرَ بِالسُّؤَالِ
 أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَكْتَنَةٌ مِنْ إِعْطَاءِ كُلِّ مَا أَرَادَ مِنْ خَزَائِنِ
 الْحَقِّ رَأَى أَنْ قَالَ، وَذَكَرَ ابْنُ سَيْعٍ فِي خَصَائِصِهِ وَ
 غَيْرِهِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَقْطَعَهُ أَرْضَ الْجَنَّةِ يُعْطَى مِنْهَا
 مَا شَاءَ لِمَنْ شَاءَ لَه

”نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مطلق فرمایا کہ مانگ رکسی چیز کی تخصیص نہیں کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے کہ حق کے خزانوں میں سے جو چاہیں دیں۔ ابن سیع وغیرہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی زمین حضور کی جاگیر کر دی ہے، اس میں سے جتنی چاہیں جسے چاہیں بخش دیں۔“

نواب صدیق حسن خاں بھوپالی لکھتے ہیں،

از اطلاقِ این سوال کہ فرمود بخواہ و تخصیص نہ کرد بمطلوبے خاص معلوم می شود
 کہ کار ہمہ بدست و بہمت کرامت اوست صلی اللہ علیہ وسلم ہرچہ خواہد و ہر
 کرا خواہد باذن پروردگار خود بدست

۵ فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَصَرَّتْهَا

وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللُّوحِ وَالْقَلَمِ

۵ اگر خیریت دُنیا و عقبی، آرزو داری

بدرگامش بیا و ہرچہ می خواہی تمتا کن

۱۰ علی بن سلطان محمد قاری، المرقاة (مکتبہ امدادیہ، ملتان)، ج ۲، ص ۳۲۳

۱۱ صدیق حسن خاں بھوپالی، نواب، مسک الختام شرح بلوغ المرام (مطبع نظامی کانپور) ج ۱ ص ۲۶

۱۲ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محقق، اشعۃ اللمعات (مکتبہ نوریہ رضویہ، سکسٹر)، ج ۱، ص ۳۹۶

”مطلقاً فرمایا کہ مانگو اور کسی خاص مقصد کی تعیین نہیں فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام کام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستِ اقدس اور آپ کی بہت کرم سے وابستہ ہیں، جو کچھ چاہیں اور جسے چاہیں اپنے پروردگار کے اذن سے عطا فرماتے ہیں۔

● حضور! دنیا و آخرت آپ کی بخشش کا ایک حصہ ہیں

اور لوح و قلم آپ کے علوم کا بعض ہیں

● اگر تو دنیا و آخرت کی خیریت چاہتا ہے

تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ اور جو چاہے مانگ

ایک طرف تو ان آیات و احادیث کو پیش نظر رکھیں، دوسری طرف عقل و خرد کی

فرمانتگی ملاحظہ ہو کہ کہنے والے یہاں تک کہہ جاتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب محکم میں متعدد انبیاء اور عباد صالحین کا ذکر کیا ہے،

انہیں اپنے مسائل، مشکلات اور پیش آمدہ حوادث میں استعاذہ، استعانت،

اور دعا کی ضرورت پیش آئی، لیکن انہوں نے آدم سے نوح تک، ابراہیم سے

موسیٰ تک، یونس سے خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد بن عبد اللہ صلوات اللہ

وسلامہ علیہم اجمعین اللہ تعالیٰ کے سوا نہ تو کسی سے مدد مانگی اور نہ ہی کسی کو

پکارا، خواہ مغفرت کا مطالبہ ہو یا اولاد یا شفاء کا، ہلاکت کے مقامات سے

نجات مطلوب ہو یا فقر و فاقہ اور قید وغیرہ سے رہائی یا مدد طلب کرنا انہوں نے

صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ کوئی واقعہ، کوئی حادثہ ایسا وارد نہیں ہوا

کہ کسی نے اللہ کے سوا اللہ کے معترّب بندوں اور منتخب اولیاء سے

مدد مانگی ہو۔“ (ترجمہ) لے

ایک بار پھر مذکورہ بالا آیات اور حدیث شریف کا مطالعہ کر لیجئے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ یہ تمام تر لچھے دار وعظ و خطابت کا ایک نمونہ ہے جسے حقائق سے دُور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ پھر انبیاء کرام تو وہ ہستیاں ہیں جن کے وسیلے سے بارگاہِ خداوندی میں اپنی حاجتیں اور مرادیں پیش کی جاتی ہیں، وہ تو خود بارگاہِ الہی کے مقرب ترین ہیں، جو عرض کرنا چاہیں، براہِ راست عرض کریں، انہیں کسی واسطے اور وسیلے کی کیا ضرورت؟

نواب وحید الزمان اور مسئلہ استعانت

نواب صاحب غیر متقلدین کے مشہور عالم اور صحاح ستہ کے مترجم ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب "ہدیۃ المہدی" میں مسئلہ استعانت پر تفصیلی گفتگو کی ہے، چند اقتباسات ملاحظہ ہوں لکھتے ہیں:

وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ مَنْ اعْتَقَدَ فِي حَقِّ غَيْرِ اللَّهِ سَوَاءً
 كَانَ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا أَنَّ لَهُ قُدْرَةً ذَاتِيَّةً أَوْ مَوْهُوبَةً مَفْرُوضَةً
 مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَى أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ بِحَيْثُ لَا يَحْتَاجُ
 فِيهَا إِلَى إِذْنِ جَدِيدٍ مِنْهُ فَهُوَ مُشْرِكٌ وَكُلُّ مَنْ يَفْهَمُ
 غَيْرَ اللَّهِ أَنَّهُ عَاجِزٌ بِالْكَلِمَةِ كَالْمَيْتِ فِي يَدِ الْغَسَّالِ
 لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا إِذَا أَرَادَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَبَعَى أَنْ
 يَأْخُذَ هَذَا الْعَمَلُ مِنْهُ فَيَعْمَلُ بِحُكْمِ اللَّهِ وَإِذْنِهِ
 وَإِرَادَتِهِ وَقَضَائِهِ وَيَنْصُرُ وَيُعِيْثُ وَيَنْفَعُ وَيَضُرُّ
 كَذَلِكَ فَهُوَ مُوَحَّدٌ لَيْسَ بِمُشْرِكٍ سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ
 الْغَيْرُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا كَمَنْ فَهِمَ أَنَّ السُّقْمُونَ بِمَسْهَلٍ
 بِذَاتِهِ أَوِ النَّارُ بِمُحْرِقَةٍ بِذَاتِهَا فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ عَلِمَ

أَنَّ إِسْمَالَ السُّمُونِيَّ وَإِحْرَاقَ النَّارِ بِأَمْرِ اللَّهِ وَ
إِذْنِهِ وَإِرَادَتِهِ فَهُوَ مُوَجِّدٌ لَيْسَ بِمُشْرِكٍ لَهُ

”حاصل یہ کہ غیر اللہ زندہ ہو یا مردہ، اس کے بارے میں جس شخص کا اعتقاد یہ ہو کہ اس کی قدرت ذاتی ہے یا اللہ تعالیٰ نے اسے کسی چیز کی قدرت اس طرح عطا کر دی ہے کہ اسے نئے اذن کی ضرورت نہیں، وہ مشرک ہے اور جو شخص سمجھتا ہے کہ غیر اللہ عاجز بعض ہے جیسے میت غسل دینے والے کے ہاتھ میں وہ خود کسی چیز پر قادر نہیں ہے۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے اور چاہے کہ اس سے یہ کام لے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم، اس کی اجازت، اس کے ارادہ و قضا سے غیر اللہ نصرت و امداد کرے گا اور فائدہ و نقصان پہنچائے گا، تو ایسا شخص موجد ہے، مشرک نہیں ہے۔ خواہ وہ غیر اللہ زندہ ہو یا مردہ۔ یہ بعینہ ایسے ہے کہ جو شخص سمجھتا ہے کہ جمال گوٹہ خود بخود دست لانا ہے یا آگ از خود جلاتی ہے، تو وہ مشرک ہے اور جو شخص یہ جانتا ہے کہ جمال گوٹہ کا دست آور ہونا اور آگ کا جلاتا اللہ تعالیٰ کے امر اور اس کے اذن و ارادہ سے ہے، تو وہ موجد ہے مشرک نہیں ہے“

یہی وہ عقیدہ ہے جو ہم اس سے پہلے امام احمد رضا بریلوی کے رسالہ مبارکہ ”برکات الاستمداد“ سے نقل کر چکے ہیں کہ مخلوق کو بالذات مفید اور مضر ماننا شرک ہے اللہ اکبر کی عطا سے ماننا شرک نہیں ہے۔

قاصی شرکانی کہتے ہیں:

إِنَّ مَنْ اعْتَقَدَ فِي مَيِّتٍ مِنَ الْأَمْوَاتِ أَوْ حَيٍّ مِنَ
الْأَحْيَاءِ أَنَّهٗ يَنْفَعُهُ أَوْ يَضُرُّهُ اسْتِقْلَالًا أَوْ مَعَ
اللَّهِ أَوْ نَادَا لَوْ أَوْ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ أَوْ اسْتَعَاثَ بِهِ فِي

أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْمَخْلُوقُ فَلَمْ
يُخْلِصِ التَّوْحِيدَ بَعْدُ وَلَا أَفْرَدَهُ بِالْعِبَادَةِ - ۱

”جو شخص کسی زندہ یا مردہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنے کہ وہ اسے مستقل طور پر یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر فائدہ یا نقصان دے سکتا ہے یا اس کی طرف متوجہ ہو یا ایسی چیز میں اس کی مدد مانگے، جس پر مخلوق قادر نہیں ہے، تو اس کی توحید خالص نہیں ہے اور نہ ہی وہ صرف اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار ہے۔“

اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ تین صورتوں میں شرک لازم آتا ہے،

۱۔ کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچانے میں مستقل مانا جائے۔

۲۔ کسی کو مفید یا مضر ہونے میں اللہ تعالیٰ کا شریک مانا جائے۔

۳۔ ایسے امور میں استعانت کی جائے، جن پر مخلوق کو قدرت نہیں ہے۔

اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نفع و نقصان سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

مخلوق تو درمیان میں واسطہ اور وسیلہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ پھر شرک کیسے لازم آگیا؟

اس پر نواب وحید الزمان تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

”اس امام رشوکانی کو دیکھو کہ غیر اللہ کے مفید یا مضر ہونے کے عقیدے

کو شرک اکبر اس وقت قرار دیتے ہیں۔ جب اسے نفع و ضرر میں مستقل مانا

جائے یا اللہ تعالیٰ کا شریک مانا جائے۔ اسی طرح غیر اللہ کی نداء، اس کی

طرف توجہ اور اس سے امداد کا طلب کرنا شرک اکبر اس وقت ہوگا، جب یہ

استعانت ان امور میں ہو جو مخلوق کی قدرت میں نہیں ہیں۔“

فَعَلِمَ بِدَاهَةِ أَنَّ الْمَدَاءَ أَوِ التَّوَجُّهَ أَوِ الْإِسْتِغَاثَةَ
فِي أُمُورٍ يَقْدِرُ عَلَيْهَا الْمَخْلُوقُ أَوْ اعْتِقَادًا لِنَفْعِ
وَالضَّرَرِ لِغَيْرِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَحُكْمِهِ وَإِرَادَتِهِ
لَيْسَ بِشِرْكَ أَكْبَرَ لَهُ

” واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ جو امور مخلوق کی قدرت میں ہیں، ان میں پکارنا، توجہ
ہونا یا مدد مانگنا یا غیر اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے اذن، اس کے حکم اور ارادہ
سے نفع و ضرر کا اعتقاد کرنا شرک اکبر نہیں ہے۔“

اب مبتدعین زمانہ کو کون سمجھائے کہ انبیاء و اولیاء سے مدد کی درخواست کرنے والا
کوئی مسلمان ایسے امور میں استعانت نہیں کرتا جو مخلوق کی قدرت میں نہ ہو اور نہ ہی اللہ تعالیٰ
کے ارادے کے بغیر کسی کو مفید یا مضر جانتا ہے۔

علامہ تقی الدین سبکی فرماتے ہیں،

وَلَيْسَ الْمُرَادُ نِسْبَةَ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
إِلَى الْخَلْقِ وَالْإِسْتِقْلَالَ بِالْأَفْعَالِ هَذَا لَا يَقْصُدُهُ
مُسْلِمٌ فَصَرَفَ الْكَلَامَ إِلَيْهِ وَمَنْعَهُ مِنْ بَابِ
التَّلْبِيسِ فِي الدِّينِ وَالشُّوَيْشِ عَلَى عَوَامِ الْمُؤَخِّدِينَ -
”یہ مقصد نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان افعال کے خالق ہیں
یا ان میں مستقل ہیں، یہ کسی بھی مسلمان کا مقصد نہیں، لہذا کلام کو اسی مطلب کی
طرف پھیرنا اور اسے ممنوع قرار دینا دین میں فریب کاری ہے اور عوام مظلومین
کو پریشانی میں ڈالنا ہے۔“

مہدی المہدی، ص ۲۰

شفا السقام، ص ۱۷۵

لہ وحید الزمان، نواب،

لہ تقی الدین سبکی، امام،

نواب وحید الزمان صاحب استغاثہ مذکورہ کے شرک نہ ہونے کی دلیل دیتے ہوئے

کہتے ہیں:

”صاحب جامع البیان نے اپنی تفسیر کی ابتداء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امداد طلب کی ہے۔ اگر غیر اللہ سے مطلق استغاثہ شرک ہو تو لازم آئے گا کہ صاحب جامع البیان مشرک ہوں، پھر ان کی تفسیر پر اعتماد کیسے کیا جائے گا؟ حالانکہ تمام اہل حدیث نے ان کی تفسیر کو قبول کیا ہے۔ سید علامہ (صدیق حسن خاں بھوپالی) نے ایک طویل قصیدے میں کہا ہے:

يَا سَيِّدِي يَا عُرْوَتِي وَوَسِيْلَتِي
يَا عُدَّتِي فِي شِدَّةٍ وَرَخَاءٍ
قَدْ جِئْتُ بِأَبْكَ ضَارِعًا مُتَضَرِّعًا
مُتَأَوِّهًا بِتَنْفِيْسٍ صَعْدَاءٍ
مَالِي وَرَاءَكَ مُسْتَعَاثٌ فَارْحَمْنِي
يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ بُكَائِي لَه

۱۔ اے میرے آقا، میرے بہارے، میرے وسیلے، سختی اور نرمی میں میرے کام آنے والے!

۲۔ میں آپ کے دروازے پر حاضر ہوا ہوں، اس حال میں کہ میں ذلیل ہوں

گر گڑا رہا ہوں، غم زدہ ہوں اور میری سانس پھولی ہوئی ہے۔

۳۔ آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، جس سے مدد مانگی جاتے۔

اے رحمتہ للعالمین! میری آہ و بکا پر رحم فرما دیجئے۔“

اگر یہی اشعار نام بتائے بغیر ملتہدین زمانہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو شرک اور

لے وحید الزمان، نواب، حاشیہ ہدیۃ المہدی، ص ۲۰

کفر سے کم کوئی فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، بلکہ جھٹ سے کہا جائے گا کہ یہ قائلِ شرک میں دورِ جاہلیت کے مشرکوں اور مکہ کے بُت پرستوں سے بھی بڑھا ہوا ہے، لیکن جب یہ ظاہر ہو گا کہ یہ تو ہمارے نواب بھوپالی صاحب کا کلام ہے، تو فتوائے شرک عائد کرنے کے لیے ان کے قلم چھوڑ قلم دانوں کی سیاہی تک خشک ہو جائے گی۔ خوفِ خدا اور خوفِ آخرت سے محرومیت کی یہ وہ افسوسناک حالت ہے کہ اس پر جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے۔

طرفہ یہ کہ نواب بھوپالی، قاضی شوکانی اور ابنِ قیم ایسے اپنے بزرگوں سے مدد مانگتے ہیں جنہیں مرے ہوتے بھی عرصہ ہو چکا ہے، انداز ملاحظہ ہو:

قبلاً دیں مدد سے، کعبۂ ایماں مدد سے

ابنِ قیم مدد سے، قاضی شوکانی مدد سے

اللہ اکبر! اہل سنت و جماعت اگر یا علی یا غوث کہہ دیں تو ان پر کفر و شرک کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے اور درجنوں گالیاں دینے کے بعد بھی ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا۔

احسان الہی ظہیر لکھتے ہیں:

بڑیلویوں کے امتیازی عقائد، یہ وہی خرافات ہیں جو مختلف شہروں میں درمیانے درجے کے صوفیوں میں پائے جاتے ہیں اور دین کے نام پر بُت پرستوں، عیسائیوں، یہودیوں اور مشرکوں سے مسلمانوں کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ ملتِ اسلامیہ کے مجددین مختلف ادوار اور علاقوں میں جن کے خلاف جنگ کرتے رہے ہیں، ان میں سے کچھ دورِ جاہلیت میں بھی موجود تھے۔ قرآن اور عاملِ قرآن نے ان سے جنگ کی، لیکن افسوس کہ وہ عقائد و خرافات بعض لوگوں کے نزدیک اسلام کے لوازم میں سے بن چکے ہیں۔ جیسے غیر اللہ سے استعانت "لے" (ملاحظہ)

ص ۲۳

حاشیہ ہدیۃ المہدی

لے وحید الزمان، نواب،

ص ۵۵

السبیلویہ

لے احسان الہی ظہیر،

87380

ہمیں اس فرقے سے شکایت نہیں ہے جو لوگ تمام امتِ مسلمہ کو کافر و مشرک قرار دینے سے بھی نہ شرمائیں۔ وہ اگر ہمیں چنین و چنناں کہہ دیں تو کیا عجب؟ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان مغلفات میں سے کچھ حصہ نواب و حید الزمان، نواب صدیق حسن بھوپالی اور ان کے متقلدین میں بھی تقسیم کر دیا جائے کیونکہ اول الذکر غیر اللہ سے استعانت کو جائز قرار دے رہے ہیں اور آخر الذکر خود استعانت کر رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ لوگ اپنے فتوؤں کا رخ اس طرف نہیں پھیریں گے، کیونکہ شرک و کفر کے فتوے عامۃ المسلمین کے لیے ہیں، انہوں نے اسے تو نہیں ہے۔

نواب و حید الزمان صاحب نے اس مسئلے پر مستقل فصل قائم کی ہے کہ جب مخلوق سے ان امور میں مدد مانگنا جائز ہے جو ان کے اختیار میں ہوں، تو کیا انبیاء، شہداء اور صلحاء سے ایسے امور میں امداد مانگی جاسکتی ہے جو ان کی ظاہری زندگی میں ان سے طلب کیے جاتے تھے، مثلاً اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یا اس کے علاوہ۔

اس فصل میں ابن تیمیہ، ابن قیم اور قاضی شوکانی کا مذہب یہ بیان کیا کہ ایسا کرنا ناجائز اور بدعت ہے۔ ابن قیم نے کہا کہ میت کا عمل منقطع ہو چکا ہے اور وہ اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ مدد مانگنے والے کو وہ کیا دے گا؟ دوسرے فریق کا ان الفاظ میں تذکرہ کرتے ہیں:

الا ان المجوزین کالسبکی وابن حجر الملکی والقسطلانی
وکثیر من الشافعیۃ یقولون ان الھی ایضا فی ذالک
مثل المیت قال اللہ تعالیٰ قُلْ لَا اَمْلَکُ لِنَفْسِیْ نَفْعًا
وَلَا ضَرًّا فَمَا اِنْ الھی لَا یقدر علی الاعانة بغیر اذن
اللہ ورضائہ وقضائہ وحکمہ و ارادتہ کذالک
المیت وانقطاع العمل لا یتلزم عدم العمل فان
الملائکة اعمالہم منقطعة ومع ذالک هم یفعلون
ما یؤمرون۔

ورأيت امامنا الحسن بن علي في المنام صلى بالجماعة
 وصليت خلفه ثم سألت عن كيف تصلي ههنا
 مع ان البرزخ ليس يدار العمل فقال نعم لا
 تجب الصلوة ههنا ولكن الصالحين من عباد الله
 يصلون ههنا ايضا تبرعاً وتقرباً الى ربهم و
 تنشيطاً لانفسهم -

ثم تذكرت حديث النبي رأيت موسى يصلي
 في قبره والصلوة مشتملة على الدعاء وحديث كافي
 انظر الى موسى له جوار الى ربه قال الطيبي لا يبعد
 منهم التقرب الى الله بالدعاء فانهم افضل من
 الشهداء وان كانت الآخرة ليست دار تكليف -
 فأي مانع يمنع من دعاء الميت للزائر مع ان
 السؤال ليس من الاموات بل من ارواح الصالحين
 والارواح لا تذوق الموت ولا تفنى بل تبقى حساسة
 مدركة سيما ارواح الانبياء والشهداء فان حكمهم
 حكم الاحياء بنص الكتاب والسنة نعم يجب ان
 تكون هذه الاستعانة والاستغاثة عند
 قبورهم فانهم حال كونهم احياء كانوا لا
 يسمعون من بعيد فكيف يسمعون من
 بعيد بعد الموت

له وحيد الزمان، نوابه، في كنف يسمعون من
 ص ۲۲ - ۲۱

مگر مجوزین جیسے امام سبکی، ابن حجر مکی، قسطلانی اور بہت سے شافعیہ وہ کہتے ہیں کہ اس بات میں زندہ بھی مردہ کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا

جس طرح زندہ، اللہ تعالیٰ کے اذن، رضا، ارادہ، حکم اور قدرت کے بغیر امداد نہیں کر سکتا۔ اسی طرح میت بھی ہے، عمل کے منقطع ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ عمل موجود ہی نہ ہو، کیونکہ فرشتوں کے اعمال منقطع ہیں۔ اس کے باوجود انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔

میں نے خواب میں حضرت امام حسن ابن علی کو دیکھا۔ انہوں نے جماعت کرائی۔ میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس جگہ کیسے نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ بزرخ وار عمل نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا ہاں، اس جگہ نماز واجب نہیں ہے، لیکن اولیاء کرام اس جگہ نفلی طور پر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور اپنے رب کی عبادت سے فرحت و نشاط حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔

پھر مجھے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد آئی کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نماز بھی دعا پر مشتمل ہے اور یہ حدیث کہ گویا میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھ رہا ہوں اور وہ بلند آواز سے تمغیہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہے ہیں۔ علامہ طیبی نے فرمایا انبیاء کے لیے دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا بعید نہیں ہے، کیونکہ وہ شہداء سے افضل ہیں، اگرچہ دارِ آخرت دارِ تکلیف نہیں ہے۔

پس زیارت کرنے والے کے لیے میت کے دعا کرنے سے کونسا مانع ہے؟ حالانکہ سوال مردوں سے نہیں ہے، بلکہ اولیاء کی رگوں سے ہے اور رگوں میں موت

کا ذائقہ نہیں چکھتیں اور نہ ہی فنا ہوتی ہیں، بلکہ ان کا احساس اور ادراک باقی رہتا ہے۔ خصوصاً ارواح انبیاء اور شہداء، کیونکہ وہ کتاب و سنت کی نص کے مطابق زندوں کے حکم میں ہیں۔ ہاں یہ استعانت ان کی قبروں کے پاس ہونی ضروری ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں دُور سے نہیں سنتے تھے، موت کے بعد کیسے سنیں گے؟

اس سے پہلے حدیث شریف گزر چکی ہے جس میں آیا ہے کہ بندہ کثرتِ نوافل سے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے اعضاء تجلیاتِ الہیہ کا منظر ہرین جاتے ہیں اور اس حدیث کی شرح میں امام رازی کی یہ تصریح کہ بندہ قرب و بعید کی چیزوں کو دیکھتا اور سنتا ہے، یقیناً مذہبی مادہ پرستوں کے لیے یہ بڑے اچھے کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس مقام پر فائز کرنے تو اس بندے کیلئے دُور و نزدیک کی چیزوں کا دیکھنا سننا کچھ مشکل نہیں۔

منکرین کے سامنے جب مخلوق سے استعانت کے ہاتھ ہونے پر قرآن و حدیث سے دلائل پیش کیے جائیں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو زندہ سے استعانت ہے، اسے تو ہم بھی مانتے ہیں، ہم جو شرک کہتے ہیں، تو مُردہ سے مدد مانگنے کو کہتے ہیں۔ نواب صاحب اس پر رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وَالْأَعْجَبُ مِنَ الْأَعْجَبِ مَا فَرَّقَ بَعْضُ إِخْوَانِنَا
فِي هَذَا بَيْنَ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ وَظَنُّوا أَنَّ
الْإِسْتِنصَارَ وَالِاسْتِغَاثَةَ بِالْأَحْيَاءِ فِي أُمُورٍ يَقْدِرُ عَلَيْهَا
الْعِبَادُ كَيْسَ بَشَرِيٍّ وَهُوَ شِرْكِيٌّ بِالْأَمْوَاتِ فِي نَفْسِ
تِلْكَ الْأُمُورِ وَهَلْ هَذَا إِلَّا سَفْسَاطَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّ الْحَىَّ
وَالْمَيِّتَ سَيَّانَ فِي كَوْنِهِمَا غَيْرَ اللَّهِ فَعَايَةُ مَا فِي الْبَابِ
أَنَّ الْإِسْتِنصَارَ بِالْأَمْوَاتِ شِرْكٌ بِالْأَحْيَاءِ لَا شِرْكٌ بِاللَّهِ تَعَالَى

لہ وحید الزمان، نواب، ہدیۃ المہدی، ص ۱۸

”عجیب ترین بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ بھائیوں نے استعانت میں زندوں اور مُردوں کا فرق کیا ہے اور گمان کیا کہ وہ امور جو بندوں کی قدرت میں ہیں، ان میں زندوں سے مدد مانگنا شرک نہیں، البتہ انہی امور میں مردوں سے مدد مانگنا شرک ہے، سالانہ یہ کھلا مغالطہ ہے کیونکہ غیر اللہ ہونے میں زندہ اور مردہ برابر ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ مُردوں سے مدد مانگنا انہیں زندوں کا شریک بنانا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا شریک۔“

یہی عقیدہ امام احمد رضا بریلوی نے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں،
 ”جو شرک ہے وہ جس کے ساتھ کیا جائے گا، شرک ہی ہوگا اور ایک کچیلے شرک نہیں، تو وہ کسی کے لیے شرک نہیں ہو سکتا۔ کیا اللہ کا شریک مرنے نہیں ہو سکتے زندے ہو سکتے ہیں؟ دُور کے نہیں ہو سکتے، پاس کے ہو سکتے ہیں۔ انبیاء نہیں ہو سکتے، حکیم ہو سکتے ہیں، انسان نہیں ہو سکتے، فرشتے ہو سکتے ہیں؟ حاشا للہ! اللہ کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا۔“

اعرابی کا استغاثہ

حضرت عتبی فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک اعرابی آیا اُس نے کہا: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ میں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان سنا ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
 وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا
 ”اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کریں، تمہارے پاس آئیں، پھر اللہ سے مغفرت طلب کریں اور رسول ان کے لیے مغفرت طلب کرے تو ضرور اللہ کو توبہ قبول

۱۔ امام احمد رضا بریلوی، امام، برکات الامداد، ص ۲۸

کرنے والا، مہربان پائیں گے۔

میں آپ کے پاس اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اور آپ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت طلب کرتے ہوئے حاضر ہوا ہوں، پھر اُس اعرابی نے یہ شعر پڑھا:

يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْقَاعِ اعْظَمُهُ
فَطَابَ مِنْ طَيِّبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكْمُ
نَفْسِي الْفِدَاءُ لِقَبْرِ أَنْتَ سَاكِنُهُ
فِيهِ الْعِصْفَانُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرْمُ

اے بہترین وہ ذات کہ اس میدان میں ان کا جسم اطہر مدفون ہے جس کی توشبو سے میدان اور ٹیلے مہک اُٹھے۔

میری جان اس قبر پر فدا جس میں آپ تشریف فرما ہیں، اس میں پاکدامنی ہے اور اس میں جو دو کرم ہے۔

اس کے بعد اعرابی کے چلا گیا۔ عتبی کہتے ہیں مجھے اوشک آگئی۔ میں نے خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی آپ نے فرمایا: عتبی! اعرابی کے پاس جاؤ اور اسے خوشخبری دو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمادی ہے۔

امام علامہ شمس الدین محمد بن جزری شافعی یہ حدیث نقل کرتے ہیں:

إِذَا نَفَلْتُمْ دَابَّتْهُ فَلْيُنَادِ أَعْيُنُوا يَا عِبَادَ اللَّهِ
رَحِمَكُمُ اللَّهُ عَوْمَصَ وَإِنْ أَرَادَ عَوْنًا فَلْيَقُلْ يَا
عِبَادَ اللَّهِ أَعْيُنُونِي يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعْيُنُونِي يَا عِبَادَ اللَّهِ
أَعْيُنُونِي ط وَقَدْ جُرِّبَ ذَلِكَ ط

۱۔ اسماعیل بن کثیر القرشی، تفسیر ابن کثیر (دار احیاء الکتب العربیہ، مصر) ج ۱، ص ۵۲۰
۲۔ محمد بن محمد جزری، امام، المحسن الحسین، (مصطفیٰ البابی علی، مصر) ص ۲۲

”جب کسی آدمی کی سواری گم ہو جائے، تو نڈا کرے، اسے اللہ کے بند و امداد کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے (مسند ابی عوانہ، مصنف ابن ابی شیبہ، اور اگر امداد چاہے، تو کہے اسے اللہ کے بند و میری امداد کرو) تین بار اس طرح کہے، یہ عمل مجرب ہے (معجم کبیر، امام طبرانی) یاد رہے کہ حصین و عاؤل کا وہ مجموعہ ہے جو علامہ جزری نے احادیث صحیحہ سے منتخب کیا ہے، وہ خود فرماتے ہیں،

وَأَخْرَجْتُهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ

جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مدد مانگنے کو شرک قرار دیتے ہیں۔ ان کے مذہب کے مطابق لازم آئے گا کہ معاذ اللہ! حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کی تعلیم دی ہو اور ائمہ دین شرک کی تعلیم دیتے رہے ہوں۔

تخریف معنوی

کافروں کے بارے میں وارد آیات مومنوں پر اور بتوں سے متعلق آیات انبیاء پر چسپاں کرنا مشرکین اور خوارج کا وظیرہ رہا ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا

اس کے سبب بہت لوگوں کو گمراہی میں ڈالتا ہے اور بہت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کے مطالب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حاصل کیے کامیاب ہوئے۔ مشرکین، منافقین اور خوارج نے اپنی عقل کو امام بنایا، گمراہی کے گڑھے ان کا مقدر

الحسن الحسین، ص ۲

آیت ۲۶

لہ محمد بن محمد جزری، امام،

البعثرة،

لہ پ ۱

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ لَهُ
بیشک تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوجتے ہو، سب جہنم کا ایندھن ہیں۔
قاضی شوکانی لکھتے ہیں،

”جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرکین مکہ میں سے ابن زبیر نے حضور اکرم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے سوا تو فرشتوں، حضرت عیسیٰ، حضرت
عزیر اور حضرت مریم کی بھی عبادت کی جاتی ہے، لہذا وہ بھی جہنم بھی جائیں
گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔“

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ
عَنْهَا مُبَعَدُونَ ۗ

”بے شک وہ جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ ہو چکا، وہ جہنم سے دور
رکھے گئے ہیں۔“

اس مشرک کو اتنا بھی احساس نہ ہوا کہ وَمَا تَعْبُدُونَ میں لفظ مَا
لایا گیا ہے جو غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اس میں مشرقتے اور انبیاء کیسے
داخل ہوں گے؟

حضرت امام بخاری فرماتے ہیں،

وكان ابن عمر يراهم شراد خلق الله وقال انهم
الطلقوا الى آيات نزلت في الكفار فجعلوها

۱۷ پ ۱۷ الانبیاء ۲۱ آیت ۹۸

۱۸ محمد بن علی شوکانی، تفسیر فتح القدر ج ۳، ص ۲۲۹

۱۹ پ ۱۷ الانبیاء ۲۱ آیت ۱۰۱

علی المؤمنین لہ

» حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خوارج کو تمام مخلوق خدا سے زیادہ
شریتر قرار دیتے تھے اور فرماتے تھے، انہوں نے کافروں کے بارے میں نازل شدہ
آیات مومنوں پر چسپاں کر دی ہیں۔«

احسان الہی ظہیر نے بھی کافروں کے بارے میں نازل شدہ آیات مسلمانوں پر اور
بتوں کے بارے میں وارد آیات انبیاء اور اولیاء پر چسپاں کر کے یہ ناکام تاثر دینے کی کوشش
کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کسی کی امداد نہیں کر سکتے اور ان سے مدد مانگنا ناجائز ہے۔ اب
یہ تو ظہیر صاحب ہی بتائیں گے کہ انہوں نے یہ کرتب مشرکین مکہ سے سیکھا ہے یا خوارج سے؟
ایک آیت یہ پیش کی ہے:

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ لَٰ

قاضی شوکانی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

هَذَا أَمْرٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ
يَقُولَ لِكُفَّارٍ قُرَيْشٍ أَوْ لِكُفَّارٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ - لَٰ
»یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے کہ کفار قریش کو فرمائیں
یا مطلق کافروں کو۔«

دوسری آیت یہ پیش کی ہے:

ذَالِكُمْ اللَّهُ دَبَّكُمْ لَهُ الْمَلَكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ

۱ محمد بن اسماعیل البخاری، صحیح بخاری (نور محمد، کراچی) ج ۲، ص ۱۰۲۴

۲ پ ۲۲ السبأ ۳ آیت ۱۲

۳ محمد بن علی الشوکانی، تفسیر فتح القدير ج ۳، ص ۳۲۴

دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرَةٍ

اس آیت کی تفسیر میں قاضی شوکانی نے کہا:

لا يسمعون دعاءكم لكونها جمادات لا تدرك شيئاً من المدركات (الی ان قال) ويجوز ان يرجع (والذین تدعون من دونہ) وما بعده الی من يعقل من عبدہم الكفار وهم الملائكة والجن والشياطين
 "لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ وَهِيَ تَهْمَارِي دُعَاكُمْ لَمْ يَكُنْ سَمْعًا، كَيْونَكَ وَهِيَ تَهْمَارِي
 ہیں اور کسی بھی چیز کا ادراک نہیں کرتے اور جازب ہے کہ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ
 اور اس کے مابعد سے مراد وہ عقل والے ہوں جن کی کافروں نے عبادت کی
 اور وہ ہیں ملائکہ جن اور شیاطین۔"

غور فرمائیے قاضی شوکانی جس آیت کو بتوں اور شیطانوں کے حق میں وارد قرار دیتے ہیں۔ ظہیر صاحب محض سینہ زوری سے اس آیت کو انبیاء و اولیاء پر چسپاں کرنے پر مصر ہیں۔

پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكِكُمْ
 یعنی معبودانِ باطلہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے، جبکہ حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 اہل محشر کی درخواست پر فرمائیں گے، اَنَا لَهَا شَفَاعَةٌ فِي اس شفاعت کے لیے ہوں۔
 لہذا یہ کہنا قطعاً غلط ہے کہ یہ آیت انبیاء و اولیاء کو بھی شامل ہے۔ یہ صرف بتوں اور معبودانِ
 باطلہ کے بارے میں ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ کا شریک مانا جاتا ہے۔ الحمد للہ کہ انبیاء و اولیاء
 کو کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں مانتا۔"

۱۳ فاطرہ ۳۵ آیت ۲۲

۲ محمد بن علی الشوکانی، تفسیر فتح المتدیر ج ۲، ص ۳۲۳

۳ مسلم بن الحجاج القشیری، صحیح مسلم، ج ۱، ص ۱۱۰

اسی طرح باقی پیش کردہ آیات بھی بتوں اور معبودانِ باطلہ کے بارے میں ہیں، انہیں زیر بحث مسئلہ میں پیش کرنا خوش فہمی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔

ایک آیت یہ بھی پیش کی ہے :

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۗ

اتنا غور کرنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ اس آیت کا مفاد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی پر رحمت کرنا چاہے، یا کسی کو زحمت دینا چاہے تو خود ساختہ معبود اسے روک نہیں سکتے۔ اس آیت کو معاذ اللہ! انبیاء و اولیاء پر کسی طرح بھی منطبق نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ کوئی جاہل سے جاہل مسلمان بھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، اللہ تعالیٰ کے مد مقابل ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کا ارادہ اور فیصلہ فرماتے، تو یہ حضرات اسے روک سکتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ حضرات محبوبیت کے اس مقام پر فائز ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی درخواست کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے اور ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔

ایک آیت یہ بھی پیش کی ہے :

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ۗ

کیا ان لوگوں کی غیرت ایمانی بالکل مرجھ چکی ہے کہ اس قسم کی آیات انبیاء و اولیاء کے لیے پیش کر رہے ہیں؟ کیا شیطانِ مرید ایسے الفاظ انبیاء و اولیاء کے لیے استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا؟ کیا ان لوگوں نے یہ یقین کر لیا ہے کہ

۱۷ پ ۲۳ ، الزمر ۳۹ آیت ۳۹

۱۸ پ ۵ النساء ۴ آیت ۱۱۸

قیامت کبھی نہیں آئے گی؟

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے بھی استدلال کیا ہے اور منکرین استعانت، بڑے تواتر سے اس آیت کو پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس آیت کو عموم پر رکھا جائے، تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے بھی مدد مانگنا جائز نہ ہو، نہ زندہ سے نہ مردہ سے، نہ قریب سے، نہ بعید سے، نہ طبیب سے، نہ پولیس سے، نہ سعودیہ سے، نہ امریکہ سے، غرضیکہ کسی سے بھی امداد مانگنا شرک ہوگا۔

نواب وحید الزمان لکھتے ہیں،

قال الشوكاني من اصحابنا لا خلاف في جواز الاستعانة
بالمخلوق في ما يقدر عليه اما ما لا يقدر عليه الا الله
فلا يستعان ولا يستغاث فيه الابيه وهو المراد
في قوله اياك نستعين وبهذا ظهر ان من اصحابنا
من نزع عن مطلق الاستعانة والاستغاثه بغير الله
شرك فقد غلا وتجاوز الحد نعوذ بالله من الغلو
والافراط۔ لہ

”ہمارے اصحاب میں سے شوکانی نے کہا کہ جو چیز مخلوق کی قدرت میں ہو اس میں استعانت کے جائز ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور جس چیز پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قادر نہیں، اس میں صرف اسی سے استعانت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے بھی یہی مراد ہے۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ ہماری اصحاب میں سے جس نے بھی یہ کہا ہے کہ غیر اللہ سے استعانت مطلقاً شرک ہے، تو اس نے غلو سے کام لیا ہے اور حد سے تجاوز کیا ہے۔“

لہ وحید الزمان، نواب، ہدیۃ المہدی، ص ۱۹

اور جب یہ طے ہے کہ یہ آیت اپنے عموم پر نہیں ہے، تو پھر اس میں وہی تخصیص کی جائے گی جو سراج الہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بیان کی ہے کہ مخلوق کو مستقل جان کر استعانت حرام ہے اور مظہر عون الہی جان کر استعانت کی تو یہ نہ صرف جائز ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔ اب بتائیے انبیاء و اولیاء سے استعانت اس آیہ مبارکہ کے کیسے مخالف ہوتی؟

مبتدعین زمانہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں:
 ”مشرکین بحری سفر میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے، جبکہ یہ لوگ (اہل سنت و جماعت) ہر سفر میں بری ہو یا بحری غیر اللہ ہی کو پکارتے ہیں“ لہ

حالانکہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تصریح کے مطابق جب انبیاء و اولیاء کو مظہر عون الہی مانا تو ان سے استعانت اللہ تعالیٰ ہی سے استعانت ہے، اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ اہل سنت ہر جگہ بحر و بر میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن ان ہستیوں کے وسیلے سے جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ہیں۔ بخلاف مشرکین کے کہ وہ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور جب عین منجد ہار میں دیکھا کہ غیر اللہ کی مدد نہیں پہنچتی تو اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگتے ہیں۔ اہل سنت کا اعتماد ہر جگہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی پر ہوتا ہے غیر پر نہیں۔

لواب و حید الزمان ایک سوال قائم کر کے اس کا جواب دیتے ہیں:

لا يقال ان السؤال عن الصنم او الوثن شرك مطلقا
 ولو سأل عنهم ما يسأل عن الناس الا دياء لانا نقول
 للصنم والوثن حكم آخر حيث امر الله بالاجتناب
 عنها وامر بكسرها واحراقهما فالتسائل عنهما ولو

سأل ما يسأل من الاحياء كانه معظم لهما وقد
 قد منا ان ادنى التعظيم لما يعبد المشركون غير
 الملائكة والانبياء والصلحاء من عباد الله والشعائر التي
 بقيت حرمتها في ديننا كفر و ارواح الانبياء والاولياء
 ليست من قبيل الاصنام والوثان بل هي من جنس
 الملائكة واشرف منها فتقاس على الملائكة لاعلى
 الاصنام والوثان التي هي رخص له

”سوال: بت یا روشن سے سوال کرنا مطلقاً شرک ہے، اگرچہ وہ پیر مانگی جائے
 جو زندوں سے مانگی جاتی ہے (پھر تم کیسے کہتے ہو کہ جو چیز زندگی میں مانگی جا سکتی
 ہے وہ انبیاء و اولیاء کی روحوں سے بھی مانگی جا سکتی ہے؟“

جواب: صنم اور روشن کا حکم الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے اجتناب
 اور انہیں توڑ دینے کا حکم دیا ہے۔ جو شخص ان سے سوال کرتا ہے اگرچہ وہ چیز
 مانگی جو زندوں سے مانگی جاتی ہے، وہ ان کی تعظیم کرتا ہے اور ہم اس سے
 پہلے بتا چکے ہیں کہ ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور وہ شعائر جن کی عزت ہمارے
 دین میں باقی ہے۔ ان کے علاوہ جن چیزوں کی مشرک عبادت کرتے ہیں،
 ان کی معمولی تعظیم بھی کفر ہے۔ انبیاء و اولیاء کی رو میں، اصنام اور اوثان
 کے قبیلے سے نہیں ہیں، بلکہ یہ ملائکہ کے قبیلے سے ہیں یا ان سے اعلیٰ ہیں، لہذا
 ان ارواح کو فرشتوں پر قیاس کیا جائے گا نہ کہ اصنام و اوثان پر جو سراپا
 نجاست ہیں۔“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

توسل

لُغَت میں کسی شے کو مقصد کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنانا تو سُل کہلاتا ہے۔ شرعی طور پر ایسی چیز کو دُعا کی قبولیت کا ذریعہ بنانا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قدر و منزلت رکھتی ہو تو سُل ہے۔ بارگاہ الہی میں اعمالِ صالحہ اور ذواتِ صالحہ دونوں ہی مقبول اور محبوب ہیں، لہذا دونوں کو وسیلہ بنایا جاسکتا ہے۔

قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین احمد مدنی خلیفہ امام احمد رضا بریلوی قدس سرہما سے ایک شخص نے پوچھا: تو سُل کے جواز پر کیا دلیل ہے؟ انہوں نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيَّ الْوَسِيلَةَ

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو،

اس شخص نے کہا کہ آیت میں تو وسیلہ سے مراد اعمالِ صالحہ ہیں۔ حضرت نے فرمایا: ہمارے اعمال مقبول ہیں یا مردود؟ اُس نے کہا: مجھے کیا معلوم؟ حضرت نے فرمایا: حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہِ خداوندی میں مقبول ہیں یا نہیں؟ اُس نے کہا: یقیناً مقبول ہیں۔ آپ نے فرمایا: جب اعمالِ صالحہ کو وسیلہ بنایا جاسکتا ہے، جن کی قبولیت مشکوک ہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وسیلہ کیوں نہیں بنا سکتے جو یقیناً مقبول ہیں۔

لہ القرآن، پ ۶ المائدہ آیت ۳۵

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اعمال اور ذوات کو وسیلہ بنانا

ترمذی شریف میں ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
انزل اللہ علی امانین وما کان اللہ لیعذبہم
وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یتغفرون
اللہ تعالیٰ نے مجھ پر دو تحفظ نازل فرمائے ہیں:

(۱) وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ (اللہ تعالیٰ ان کو عذاب
نہیں دے گا، جب تک اے حبیب! تم ان میں موجود ہو۔)

(۲) وَمَا كَانَ اللَّهُ مَعِذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (اللہ تعالیٰ
ان کو عذاب دینے والا نہیں، جب تک وہ استغفار کرتے ہیں)

پہلی آیت میں عذاب سے محفوظ رہنے کا وسیلہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات
کو اور دوسری آیت میں عمل استغفار کو قرار دیا گیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:
رَبِّ اشْعَثْ مَدْفُوعًا بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ
لَا بَرَّةَ رِوَاةً مُسْلِمًا

”بہت پر اگندہ بالوں والے جنہیں دروازوں سے واپس کر دیا جاتا ہے اگر قسم دے کہ
اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دے (مسلم شریف)

حضرت مصعب ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

نے فرمایا:

۱۔ محمد بن عیسیٰ ترمذی، امام، ترمذی شریف، ابواب التفسیر، ص ۲۳۹

۲۔ شیخ ولی الدین ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ، مشکوٰۃ شریف (ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی) ص ۲۲۶

هل تنصرون وتوزقون الا بضعفائكم (رواه البخاری)

” حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کو فرماتے ہوئے سنا،

الابدال یكونون بالشام وهم اربعون رجلا كلما
رجل ابدل الله مكانه رجلا یسقی بهم الغیث
وینتصرون بهم علی الاعداد ویصرفون عن اهل الشام
بهم العذاب۔^۱

” ابدال شام ہی میں ہوں گے۔ یہ چالیس مرد ہوں گے، ان میں سے
ایک جب فوت ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا مقرر فرما دے گا
ان کی برکت سے بارش دی جائے گی۔ ان کے وسیلے سے دشمنوں پر مدد طلب
کی جائے گی اور ان کی بدولت اہل شام سے عذاب دفع کیا جائے گا۔“
حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ حضور سید عالم رسول اکرم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

ابغونی فی ضعفائکم فانما ترزقون او تنصرون

بضعفائکم (رواه ابو داؤد)^۲

”تم اپنے ضعیفوں میں میری رضا طلب کرو کیونکہ تمہیں ضعیفوں کی بدولت رزق ہی
دیا جاتا ہے یا فرمایا کہ تمہیں امداد دی جاتی ہے۔“

۱۔ شرح ولی الترمذی ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ مشکوٰۃ شریف، ص ۴۴۶

۲۔ ایضاً ص ۵۸۲-۳

۳۔ ایضاً (باب فضل الفقراء) ص ۴۴۷

ایک تو وہ ضعیف ہیں جو ناداری کا شکار ہیں۔ دوسرے وہ جو عبادت و ریاضت کی کثرت کی وجہ سے لاغر و نزار ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ (اولیاء کرام) وسیلہ نصرت و رحمت بننے کے زیادہ مستحق ہیں۔

حضرت امیہ بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے راوی ہیں؛

إِنَّهُ كَانَ يَسْتَفْتِحُ بِصَعَالِيكِ الْمُهَاجِرِينَ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السَّنَةِ
”نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقراء مہاجرین کے وسیلے سے فتح و نصرت کی دُعا مانگا کرتے تھے۔“

حضرت ملا علی قاری اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں؛

وقال ابن الملك بان يقول اللهم انصرنا على الاعداء
بحق عبادك الفقراء المهاجرين لئ

”ابن الملك فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح دعا مانگتے تھے؛ اے اللہ اپنے فقیر اور مہاجر بندوں کے طفیل ہمیں دشمنوں کے خلاف مدد عطا فرما۔“

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین مہستی ہیں۔ فقراء، مہاجرین کا وسیلہ پیش کرنے کا باعث ہرگز یہ نہیں کہ آپ وسیلے کے محتاج ہیں، بلکہ شکستہ خاطر اور ستم رسیدہ صحابہ مہاجرین کی عزت افزائی ہے اور امت مسلمہ کو یہ بتانا ہے کہ بارگاہِ الہی میں دُعا کرتے وقت میرے غلاموں کا وسیلہ بھی پیش کر سکتے ہو۔ سبحان اللہ! جس ذاتِ اقدس کے غلاموں سے تو تسل کیا جاسکتا ہے۔ خود اس ذاتِ مکرم سے تو تسل کیوں جائز نہ ہوگا؟

مشکوٰۃ شریف ص ۲۲۷

لے شیخ ولی الدین، امام؛

مرقاۃ المفاتیح مکتبہ امدادیہ، ملتان، ج ۱۰، ص ۱۳

لے علی بن سلطان محمداغاری؛

اس گفتگو سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ بارگاہِ الہی میں صرف اعمالِ صالحہ کا وسیلہ پیش کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ مقبول بارگاہِ صالحین کا وسیلہ پیش کرنا بھی جائز ہے۔

سیدِ عالم محبوبِ رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے توسل

حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے توسل آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے، ولادتِ مبارکہ کے بعد، حیاتِ طیبہ ظاہرہ میں، وصال کے بعد عالم برزخ کی مدت میں اور میدانِ قیامت میں جائز اور واقع ہے۔ لہٰذا علامہ ابن قیم کہتے ہیں:

لا سبیل الی السعادة والفلاح لا فی الدنیا ولا فی الاخرة
الا علی ایدی الوسل ولا ینال رضاء اللہ البتة
الا علی ایدیہم لہ

”دنیا و آخرت میں سعادت و فلاح رسولانِ گرامی کے ہاتھوں ہی مل سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ان ہی کی بدلت میں آسکتی ہے“

ولادت باسعادت سے پہلے توسل

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

لما اقرت ادم الخطيئة قال يا ادب اسالك بحق محمد
لما غفرت لي فقال الله يا ادم وكيف عرفت محمدا
ولم اخلقه؟ قال يا ادب لما خلقتني بيدك ونفخت
في من روحي دفعت رأسي فوأت على قوائم العرش

لہٰذا شیخ حسن العدوی الحمزاوی، مشارق الانوار فی فوائذ الاعتبار (المطبعة الشرفیة مصر، ص ۵۹)

لہٰذا ابن قیم الجوزیہ، زوا المعاد ج ۱ ص ۲۸

مكتوباً لا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت انك
لم تضيف الى اسمك الا احب المخلق اليك فقال الله
صدقت يا ادم انه لاحب المخلق الى اذ عنى بحقه
فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك هذا
حديث صحيح الاسناد له

” جب آدم علیہ السلام سے لغزش سرزد ہوئی، تو انہوں نے دعائیں مانگی اسے
میرے رب! میں تجھ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے
دُعائیں مانگتا ہوں کہ میری مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے آدم! تم نے
محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ حالانکہ میں نے انہیں ابھی
پیدا بھی نہیں کیا، عرض کیا: میرے رب! جب تو نے میرا جسم اپنے دستِ قدرت
سے بنایا اور میرے اندر روحِ خاص بھونکی، تو میں نے سراٹھایا کیا دیکھتا ہوں
کہ عرش کے پایوں پر لا اله الا الله محمد رسول الله لکھا ہوا ہے
میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس ہستی کا نام لکھا ہوا ہے جو
تجھے تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آدم! تو نے
سچ کہا وہ مجھے تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہے۔ تم مجھ سے ان کے وسیلے
سے دعائیں مانگو، میں نے تمہاری مغفرت فرمادی۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
نہ ہوتے، تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔“

اہل کتاب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آپ کے
وسیلے سے فتح و ظفر کی دعائیں مانگا کرتے تھے اور اپنی مرادیں پاتے تھے۔

علامہ ابن القیم لکھتے ہیں:

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما کانت یہود خیبر تقاتل

عطفان فلما التقوا هنمت یہود خیبر فعاذت الیہود

لہ الحاکم النشاوری : المستدرک، کتاب التاریخ (دار الفکر، بیروت) ج ۲، ص ۶۱۵

بِهَذَا الدَّعَاءِ فَقَالَتْ : اللَّهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ الْبَيْتِيِّ
الْاَتَمِيِّ الَّذِي وَعَدْتَنَا اَنْ تَخْرُجَهُ لَنَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ اِلَّا
نَصَرْتَنَا عَلَيْهِمْ قَالَ فَكَانُوا اِذَا التَّقُوا دَعَوْا بِهَذَا الدَّعَاءِ
فَهَزَمُوا غَطَفَانَ فَلَمَّا بَعَثَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَفَرُوا بِهٖ فَاَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ
عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا يَعْنِي بِكَ يَا مُحَمَّدٌ

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ خیبر کے یہودی قبیلہ
غطفان کے ساتھ حالت جنگ میں رہتے تھے۔ ایک مقابلے میں یہودی شکست
کھا گئے، تو انہوں نے یہ دُعا مانگی: اے اللہ! ہم تجھ سے نبی اتمی محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل دُعا مانگتے ہیں، جنہیں تو نے آخری زمانے
میں ہمارے پاس بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، تو ہمیں غطفان کے خلاف ہماری مدد
فرما، اب وہ مقابلے کے وقت یہ دُعا مانگتے تھے، چنانچہ انہوں نے غطفان
کو شکست دے دی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہوئے
تو انہوں نے آپ کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔
وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہودی
اس سے پہلے کافروں کے خلاف فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یعنی
اے محمد! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے وسیلے سے۔

حیات ظاہرہ میں توسل

امام طبرانی معجم کبیر اور معجم اوسط میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ

لے محمد بن ابی بکر بن قسیم الجوزیہ (م ۸۵۱ھ) ۱ ہدایۃ الحیاری فی اجوبۃ الیہود والنصارى (الجامع الفریہ) ص ۴۹۳

سے راوی ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے وصال پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زیدؓ حضرت ابویوب انصاریؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ایک سیاہ فام غلام کو قبر کھودنے کا حکم دیا۔ جب لحد تک پہنچے تو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنفس نفیس لحد کھودی اور اپنے ہاتھوں سے مٹی نکالی، جب فارغ ہوئے تو اس قبر میں لیٹ گئے، پھر یہ دعا مانگی:

اللہ الذی یحیی ویمیت وھو حی لا یموت اغفر
لا حق فاطمہ بنت اسد ووسع علیہما مدخلہما
بحق نبیک والانبیاء الذین من قبلی وناک
ارحم الراحمین۔ لہ

”اللہ تعالیٰ زندگی اور موت دیتا ہے، وہ زندہ ہے، اس کے لیے موت نہیں

میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے۔ اپنے نبی اور مجھ سے پہلے نبیوں

کے طفیل اس کی قبر کو وسیع فرما۔ بیشک تو سب سے بڑا رحم والا ہے۔“

اس حدیث سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات میں اور دیگر انبیاء کے وصال کے بعد بارگاہ الہی میں وسیلہ پیش کرنا ثابت ہے۔

علامہ نور الدین سمہودی فرماتے ہیں:

وقد یكون التوسل بہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
بطلب ذالک الامر یعنی انہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
قادر علی التوسل فیہ بسؤالہ وشفاعتہ الی ربہ فیعود
الی طلب دعائہ وان اختلفت العبارة ومنہ قول
القائل لہ اسألك مرافقتک فی الجنة الحدیث و

لہ نور الدین علی بن احمد سمہودی (م ۱۱۹۹ھ) وفاء الوفا (دار احیاء التراث العربی بیروت) ج ۳، ص ۸۹

لا يقصد به الا كون صلى الله تعالى عليه وسلم سبباً وشفاعاً.
 ”نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے توسل کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ایک
 چیز آپ سے طلب کی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بارگاہ الہی میں دُعا
 شفاعت کے ذریعے سبب بننے پر قادر ہیں۔ اس کا مال یہ ہوگا کہ آپ سے دُعا
 کی درخواست ہے، اگرچہ الفاظ مختلف ہیں۔ اسی قسم سے صحابی (حضرت ربیعہ)
 کی درخواست ہے: اسألك مرافقتك في الجنة (الحديث)
 میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت کی درخواست کرتا ہوں۔ اس کا مقصد
 یہی ہے کہ آپ اس مقصد کے لیے سبب اور سفارشی بنیں۔“

حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں:

وانك ادنى المرسلين وسيلة

الى الله يا ابن الاكرميين الاطايب

وكن لي شفيعا يوم لا ذوشفاعه

بمغن فتيلاً عن سواد بن قارب

”طیب و مکرم حضرات کے فرزند! آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام رسولوں

سے زیادہ قریب و وسیلہ ہیں۔

آپ اس دن میرے شفیع ہوں گے جس دن کوئی شفاعت کرنے والا ہو اور

بن قارب کو کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکے گا۔“

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپسی پر حبرانہ تشریف فرما ہوئے

اُس وقت قبیلہ ہوازن کے بچوں اور عورتوں میں سے چھ ہزار قیدی آپ کے ہمراہ تھے۔

۱۔ نور الدین علی بن احمد السہودی، وفالوف ج ۲، ص ۱۳۶-۱۳۷

۲۔ عبد اللہ بن محمد بن عبد الوہاب النجدی، مختصر سیرۃ الرسول (مکتبہ سلفیہ لاہور) ص ۶۹

اونٹوں اور بکریوں کا تو کوئی شمار ہی نہ تھا۔ ہوازن کا ایک وفد مشرف بہ اسلام ہو کر حاضر بارگاہ ہوا۔ انہوں نے درخواست کی کہ ہم پر احسان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا: قیدیوں اور اموال میں سے ایک چیز پسند کر لو، انہوں نے عرض کیا: ہمیں قیدی محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا: جو قیدی میرے ہیں یا بنو عبدالمطلب کے ہیں، وہ تمہارے ہیں۔ باقی جو تقسیم ہو چکے ہیں، ان کے لیے یہ طریقہ اختیار کرو:

وَإِذَا مَا انْصَلَبْتَ الظَّهْرَ بِالنَّاسِ فَقُومُوا فَقُولُوا
 إِنَّا نَسْتَشْفَعُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَبِالْمُسْلِمِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فِي
 آبَائِنَا وَنِسَائِنَا فَسَأَعْطِيكُمْ عِنْدَ ذَلِكَ وَأَسْأَلُ لَكُمْ
 ”جب میں لوگوں کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ لوں، تو تم کھڑے ہو کر کہنا ہم رسول اللہ
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ مسلمانوں سے ہماری شفاعت
 فرمائیں اور مسلمان ہماری شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں۔ ہمارے
 بیٹوں اور عورتوں کے حق میں، تو میں تمہیں اس وقت عطا کر دوں گا اور تمہاری سفارش
 کروں گا۔“

چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اکثر صحابہ نے عرض کیا جو کچھ ہمارے پاس ہے، وہ حضور کا
 ہے۔ باقی صحابہ سے آپ نے وعدہ فرمایا کہ ہر قیدی کے بدلے، پہلے مال غنیمت سے چھ
 اونٹنیاں دی جائیں گی، اس طرح ہوازن کو تمام قیدی مل گئے۔

اسی موقع پر حضرت زبیر بن عروڑ رضی اللہ تعالیٰ عنہ (صحابی) نے عرض کیا:

أَمَّنْ عَلَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ فِي كَرَمِ
 فَإِنَّكَ السَّمْعُ نَرْجُوهُ وَنَنْتَظِرُهُ

السيرة النبوية (مع الروض الالنف) مكتبة فاروقية ملتان، ج ۲ ص ۲۶
 الروض الالنف (مكتبة فاروقية، ملتان)، ج ۲ ص ۲۰۶

عبد الملك بن هشام (م ۷۲۱۳)
 عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي

فرماتے ہوئے سنا جیسے آپ کسی انسان سے گفتگو فرما رہے ہوں، کیا وضو خانے میں کوئی آپ کے ساتھ تھا؟ آپ نے فرمایا: یہ بنو کعب کا رجز خواں مجھے مدد کے لیے پکار رہا تھا اور اس کا کہنا ہے کہ قریش نے ان کے خلاف بنو بکر کی امداد کی ہے۔ تین دن کے بعد آپ نے صحابہ کو صبح کی نماز پڑھانی، تو میں نے سنا کہ رجز خواں اشعار پیش کر رہا تھا:

یہ بھی صحابی ہیں جنہوں نے تین دن کی مسافت سے بارگاہ رسالت میں فریاد کی اور ان کی فریاد سنی گئی۔

حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک نابینا صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر درخواست کرتے ہیں کہ میرے لیے بینائی کی دُعا فرمائی جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر چاہو تو میں تمہارے لئے دُعا کرتا ہوں اور چاہو تو صبر کرو اور صبر تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا دُعا فرمادیں۔ آپ نے فرمایا اچھی طرح وضو کر کے دو رکعت ادا کرو اور یہ دُعا مانگو:

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ وَاَتُوْجِّهْ اِلَیْکَ بِمُحَمَّدٍ نَبِیِّ الرَّحْمَةِ
 یَا مُحَمَّدُ اِنِّیْ تَوَجَّهْتُ بِکَ اِلَی رَبِّیْ فِی حَاجَتِیْ هَذِهِ
 لِتَقْضِیِ اللّٰهُمَّ شَفَعِ رَفِیْ۔ لہ

”اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں۔ یا محمد! میں آپ کے وسیلے سے اپنی اس حاجت میں اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں تاکہ پوری کر دی جائے۔ اے اللہ! میرے حق میں حضور کی شفاعت قبول فرما۔“

لہ ابو عبد اللہ الحاکم النیسابوری، المستدرک (دار الفکر، بیروت) ج ۱، ص ۵۱۹
 نوٹ: ترمذی شریف ابواب الدعوات (نور محمد، کراچی) ص ۵۱۵ پر بھی یہ حدیث موجود ہے، لیکن اس میں لفظ
 یا محمد حذف کر دیا گیا ہے۔ شاید اس حدیث کو بھی عقیدہ توحید کے مخالف سمجھا گیا ہے۔ ۱۲ قادری

امام طبرانی کی روایت میں ہے کہ ابھی ہم وہیں بیٹھے تھے، زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ صاحب تشریف لائے، ان کی بیٹائی بجال ہو چکی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ انہیں کبھی تکلیف ہوتی ہی نہ تھی۔

اہل مدینہ قحط میں مبتلا ہو گئے، تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اس کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوتے اور بارش کی دعا کی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ زوردار بارش شروع ہو گئی۔ مدینہ منورہ کے آس پاس کے لوگوں نے حاضر ہو کر شکایت کی کہ ہم تو ڈوب جائیں گے۔ آپ نے دعا کی اے اللہ! ہمارے ارد گرد بارش ہو ہم پر نہ ہو۔ چنانچہ بادل آس پاس سے اس طرح ہٹ گیا، جیسے تاج ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

لو اد مرک ابوطالب هذا اليوم لسوة فقال له بعض اصحابه يا رسول الله! اردت لقوله
وابيض يستسقى الغمام بوجهه
ثم اليتامى عصمة للارامل

فقال اجل! له

”اگر ابوطالب اس دن کو پاتے، تو انہیں خوشی ہوتی۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور! آپ کا اشارہ ان کے اس شعر کی طرف ہے، گورے رنگ والے جن کے چہرے کے وسیلے سے بارش کی عامانگی جاتی ہے۔ یتیموں اور ناداروں کے بلجا و ماویٰ!

فرمایا: ہاں!“

وصال کے بعد تسلی

امام قسطلانی، ابن منیر سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کی اطلاع ملی تو روتے ہوئے حاضر ہوئے اور چہرہ انور سے کپڑا اٹھا کر یوں عرض کرنے لگے:

ولو ان موتك كان اختيارا لجدنا لموتك بالنفوس
اذكرنا يا محمد عند ربك ولنكن من بالک۔ ۱
”اگر آپ کی موت میں ہمیں اختیار دیا جاتا تو ہم آپ کے وصال کے لیے اپنی
جانیں قربان کر دیتے۔ حضور! اپنے رب کے پاس ہمیں یاد کرنا اور ہمارا
خیال ضرور رکھنا۔“

ایک صاحب کسی مقصد کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات
کرنا چاہتے تھے، لیکن کامیابی نہ ہوتی۔ انہوں نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
تذکرہ کیا۔ انہوں نے فرمایا: وضو کر کے مسجد میں دو رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا
مانگو، اللہم اتی اسئلك الخ

انہوں نے یہ عمل کیا نہ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی اور
انہوں نے ان کی حاجت پوری کر دی، بلکہ فرمایا، جب کوئی کام ہو تو میرے پاس آ جانا۔ یہ صاحب
واپسی پر حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور شکریہ ادا کیا کہ آپ کی سفارش سے میرا کام
ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، میں نے سفارش بالکل نہیں کی۔ میں نے تو تمہیں وہ عمل بتایا تھا جو حضور
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نابینا صحابی کو تعلیم فرمایا تھا۔ (ملخصاً) ۲

۱۔ احمد بن محمد القسطلانی، امام، (دم ۹۲۳ھ) مواہب لدنیہ (مع شرح الزرقانی)، ج ۸، ص ۳۲۲

۲۔ الطبرانی، امام، المعجم الصغیر ص ۱۰۳

حضرت مالک الدار (حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خازن) راوی ہیں کہ حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط واقع ہو گیا۔ ایک صاحب (حضرت بلال بن
حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی) حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار انور
پر حاضر ہوئے اور عرض کی:

یا رسول اللہ استسق لامتك فانهم قد هلكوا
”یا رسول اللہ! اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرمائیے کیونکہ وہ لوگ ہلاک

ہوتے جا رہے ہیں۔“

قال فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال
انت عمر فمره ان يستسقى للناس فانهم سيستقون
وقل له عليك الكيس الكيس فاتي الرجل عمر فاخبره
قال فبكي عمر وقال يا رب ما آلا ما عجزت عنه
”خواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور
فرمایا، عمر کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ لوگوں کے لیے بارش کی دعا کریں، انہیں
بارش دی جائے گی اور انہیں کہو کہ احتیاط کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو۔ وہ
صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ماجرا بیان کیا۔ حضرت
عمر رو دیے۔ اور کہا یا اللہ! میں اپنی بساط بھر کو تا ہی نہیں کرتا۔“

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورِ خلافت میں ۱۸ھ میں پھر قحط واقع ہوا،
جسے عام الزمادہ کہتے ہیں۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی قوم
بنو مزینہ نے کہا، ہم مرے جا رہے ہیں، کوئی بکری ذبح کیجئے۔ فرمایا، بکریوں میں کچھ نہیں رہا۔
اصرار بڑھا، تو انہوں نے بکری ذبح کی۔ جب اس کی کھال اتاری تو نیچے سے سُرخ بڑی نکلی

یہ دیکھ کر حضرت بلال مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فریاد کی،

فنادی یا محمد اے فلما امسى فامرئى فى المنام
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ابشر بالحياة
”اور پکارا یا محمد اے۔ رات ہوئی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں فرما رہے ہیں کہ تمہیں زندگی مبارک ہو۔“

جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کے ساتھ فوج کی تعداد ساٹھ ہزار تھی جبکہ مسلمانوں
کی تعداد کم تھی۔ مقابلہ بہت شدید تھا۔ ایک وقت نوبت یہاں تک پہنچی کہ مسلمان مجاہدین کے
کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے۔ انہوں نے
یہ حالت دیکھی،

نادی بشعار المسلمین وكان شعارهم يومئذ
يا محمد اے

”تو انہوں نے مسلمانوں کی علامت کے ساتھ ندا کی، اس دن مسلمانوں کی
علامت تھی یا محمد اے!“

حضرت ابو عبیدہ ابن عامر الجراح نے حضرت کعب بن ضمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما،
کو ایک ہزار افراد کے ہمراہ حلب کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کیا۔ جب وہ حلب کے قریب پہنچے
تو یوقنا پانچ ہزار افراد کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ مسلمان جم کر لڑے، اتنے میں پیچھے چھپے ہوئے
پانچ ہزار افراد کے لشکر نے حملہ کر دیا۔ اس خطرناک صورت حال نے مسلمانوں کو بے حد
پریشان کر دیا۔ حضرت کعب بن ضمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھائے ہوئے بلند آواز سے
پکارا:

البدایۃ والنہایۃ (مکتبۃ المعارف، بیروت)، ج ۷، ص ۹۱

لے حافظ ابن کثیر،

ج ۶، ص ۳۲۳

لے ایضاً،

یا محمد! یا محمد! یا نصر اللہ انزلہ

”یا محمد (دو بار) اسے اللہ کی امداد، نزول فرما“

مسلمان ان کے گرد جمع ہو گئے اور کمال ثابت قدمی سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ فتح مہنسا کے موقع پر ایک دفعہ جب رات بھر جنگ ہوتی رہی، اُس وقت مسلمانوں کا

شعار (علامتی نشان) تھا۔

یا محمد! یا محمد! یا نصر اللہ انزلہ

ابو الجوزاء حضرت اوس بن عبداللہ فرماتے ہیں ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں سخت فحط پڑا۔

اہل مدینہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شکایت کی۔ آپ نے فرمایا:

أَنْظُرُوا قُبُورَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْعَلُوا

مِنْهُ كَوَاكِبَ السَّمَاءِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ

سَقْفٌ قَالَ فَفَعَلُوا فَمَطَرٌ وَامْطَرَا حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ

وَسَمَّتِ الْإِبِلُ حَتَّى تَفْتَقَتْ مِنَ الشَّحْمِ نَسَمَى عَامَ الْفَتْقِ

”نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار مبارک کو دیکھو اور آسمان کی طرف

اس کا روشن دان کھول دو تاکہ اس کے اور آسمان کے درمیان چھت حائل

نہ رہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اتنی بارش ہوئی کہ سبزہ اگا، اونٹ موٹے ہو گئے

اور چربی کی زیادتی کی وجہ سے ان کے جسم پھٹ گئے۔ چنانچہ اس سال کا

نام ہی عام الفتن رکھ دیا گیا۔“

سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پاؤں مبارک سو گیا

فتوح الشام ومصطفى البابی، مصر ۱۹۳۴ء، ج ۱، ص ۱۹۶

۱۔ محمد بن عمر الواقدی؛

ج ۲، ص ۲۱۸

” ” ”

۲۔ ایضاً؛

ج ۱، ص ۲۳

۳۔ عبداللہ بن عبدالرحمن الدارمی، (م ۲۵۵ھ) سنن دارمی (داراللمیسن، مصر)

فقال له رجل ، اذ كراحت الناس اليك فقال
يا محمد ! صلى الله عليه وسلم فكانما نشط من عقالي
”ایک شخص نے انہیں کہا: اس ہستی کو یاد کرو جو تمہیں تمام انسانوں سے زیادہ
محبوب ہو، انہوں نے کہا: یا محمد! (صلى الله عليه وسلم) وہ اسی وقت چنگے بھلے
ہو گئے، گویا قید سے آزاد کر دیئے گئے ہوں۔“

”اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک شخص کا پاؤں
سو گیا، تو آپ نے اسے فرمایا: اس ہستی کو یاد کرو جو تمہیں سب انسانوں سے
زیادہ محبوب ہیں۔“ اس نے کہا: ”محمد صلی اللہ علیہ وسلم“ اس کا پاؤں صحیح ہو گیا۔
”ہتیم بن عدی کہتے ہیں کہ بنو عامر نے بصرہ میں اپنے جانور کھیتی میں چرائے، انہیں طلب
کرنے کے لیے حضرت موسیٰ اشعری (حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما) کی طرف بھیجے گئے۔ بنو عامر
نے بلند آواز سے اپنی قوم آل عامر کو بلایا تو حضرت نابغہ جعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ (صحابی) اپنے
رشتہ داروں کی ایک جماعت کے ساتھ نکلے، انہیں حضرت ابو موسیٰ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے
پوچھا: آپ کیوں نکلے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: میں نے اپنی قوم کی پکار سنی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ
اشعری رضی اللہ عنہ نے انہیں تازیانے لگائے۔ اس پر حضرت نابغہ (صحابی) رضی اللہ عنہ
نے کہا:

فان تك لابن عفان امينا فلم يبعث بك البر الامينا
ويا قبر النبي وصاحبيه الا يا غوثنا لو تسمعونا

۱۔ ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی، امام، الاذکار (مصطفیٰ البابی الحلبي، مصر، ص ۲۷۱)
۲۔ ایضاً
ص ۲۷۱

۳۔ ابن عبد البر النمری القرطبی (م ۴۶۳ھ) الاستیعاب علی الاصابہ (دار صادر بیروت) ج ۲، ص ۵۸۶

”اگر تو ابن عفان کا امین ہے، تو انہوں نے تجھے احسان کرنے والا امین بنا کر نہیں بھیجا؟“
 ”اے نبی اور ان کے دو صاحبوں کی قبر! اے ہمارے فریادرس!

کاش آپ ہماری فریاد سن لیں!“
 حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیشہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا
 جب حراست میں میدان جنگ سے گزریں تو بے ساختہ فریاد کی:

يا محمد اء يا محمد اء صلى عليك الله وملك السماء
 هذا حسين بالعرء مزمل بالدماء مقطوع الاعضاء
 يا محمد اء وبناتك سبايا وذريتك مقتلة تسفى
 عليهما الصبا — قال فابكت كل عدو وصدیق له
 ”اے بہت ہی تعریف کیے ہوئے! امداد (دو مرتبہ) اللہ تعالیٰ آپ پر
 رحمتیں نازل فرمائے اور آسمانی فرشتے درود بھیجیں، یہ حسین میدان میں ہیں،
 خون میں نہاتے ہوئے، اعضاء کٹے ہوئے۔ یا محمد! امداد، آپ کی بیٹیاں
 حراست میں ہیں، آپ کی اولاد شہید کر دی گئی۔ باد صبا ان پر مٹی اڑا رہی ہے۔
 راوی کہتے ہیں ان کی پُرسوز فریاد نے ہر اپنے اور بیگانے کو رُلا دیا۔

امت مسلمہ اور توسل

اجماع صحابہ

حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
 بارشش کی دُعا اس طرح مانگا کرتے تھے۔

عن انس بن مالك ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ
 كان اذا قُطِطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ
 فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلى الله عليه وسلم
 فتسقينا وانا نتوسل اليك بعمر نبينا فاستقنا قال فيستقون
 ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ قحط میں
 مبتلا ہو جاتے تو حضرت عمر فاروق، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے
 وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اور عرض کرتے بار اہلہا! ہم تیری بارگاہ میں تیرے
 نبی کے محترم چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، تو ہمیں سیراب فرما، تو انہیں بارش
 عطا کر دی جاتی۔“

ابن تیمیہ اور ان کے مقلدین کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور
 نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بجائے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ پیش کیا۔
 اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وصال کے بعد توسل جائز نہیں ہے،
 یہ کھلا ہوا مغالطہ ہے۔

۱- اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ بارگاہ الہی میں صرف اعمال صالحہ کا وسیلہ پیش کرنا
 ہی جائز نہیں، بلکہ ذوات صالحین کا وسیلہ پیش کرنا بھی جائز ہے اور اس پر صحابہ کرام کا
 اجماع ہے، کیونکہ یہ دعا صحابہ کرام کے اجتماع میں مانگی گئی اور کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا
 جبکہ تمہیں اس سے انکار ہے۔

۲- اگرچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہ برگزیدہ ہستی ہیں کہ خود ان کا وسیلہ بھی پیش کیا جاسکتا تھا،
 لیکن حضرت عمر فاروق نے یوں عرض کیا کہ یا اللہ! ہم تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں،
 تو دراصل یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کا وسیلہ ہے۔

۱۔ محمد بن اسماعیل البخاری، امام، صحیح البخاری (نور محمد، کراچی) ج ۱، ص ۱۳۷

علامہ بدرالدین عینی کی نقل کردہ روایت میں ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دُعا مانگی۔ پھر حضرت عباس نے جو اُن کے ساتھ منبر تشریف فرما تھے۔ ان الفاظ میں دُعا کی:

اللَّهُمَّ لِمَنْ يَنْزِلُ بَلَاءٌ إِلَّا بِذَنْبٍ وَلِمَنْ يَكْشِفُ الْإِبْتِغَابَ

وَقَدْ تَوَجَّهَ بِي الْقَوْمُ إِلَيْكَ لِمَكَانِي مِنْ نَبِيِّكَ - ۱۷

”اے اللہ! بلائیں گناہوں کے سبب ہی نازل ہوتی ہے اور توبہ ہی سے دور ہوتی

ہے۔ یہ لوگ میرے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوئے ہیں کہ میرا تیرے نبی سے

تعلق ہے۔“

حافظ ابن عبدالبر، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرہ میں لکھتے ہیں:

وروينا من وجوه عن عمران بن خروجه يستسقى وخروج معه

بالعباس فقال اللهم انا نتقرب اليك بعمر نبيك

صلى الله عليه وسلم ونستشفع به فاحفظ فيه لنبيك

صلى الله عليه وسلم كما حفظت الغلامين لصلاح ابئهما.

”ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد روایات پہنچی ہیں کہ وہ حضرت

عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ استسقاء کے لیے نکلے اور دُعا کی اے اللہ!

ہم تیرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کے وسیلے سے تیرا قرب چاہتے ہیں،

ان کو شفیع بناتے ہیں۔ پس تو ان میں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حایت

فرما جیسے تو نے دو بچوں کی ان کے باپ کی نیکی کے طفیل حفاظت فرمائی

(کہ ان کی گرتی دیوار سیدھی کر دی)

عمدة القاری (محمد امین دہلوی بیروت) ج ۷، ص ۳۲

۱۷ بدرالدین محمود عینی، علامہ،

استیعاب (دار صادر بیروت) ج ۳، ص ۹۹

۱۸ ابن عبدالبر النمری القرطبی،

اس سے ثابت ہوا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دُعا کرنا دراصل نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس ہی سے تو تسل ہے۔

۳۔ بارگاہِ خداوندی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنا تو مسلم تھا ہی، حضرت فاروقِ اعظم نے حضرت عباس کا وسیلہ پیش کر کے بتلا دیا کہ تو تسل حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ آپ کے قرابت دار اور اہلِ صلاح امتیوں کا وسیلہ بھی پیش کیا جاسکتا ہے تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا جاسکتا ہے۔ امتی کو وسیلہ نہیں بنا سکتے۔

حضرت سلیم بن عامر خبازی راوی ہیں:

ان السماء قحطت فخرج معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه
واهل دمشق يستسقون فلما قعد معاوية على المنبر
قال ابن يزيد بن الاسود الجرشى؛ قال فناداه الناس
فاقبل يتخطى فامرہ معاوية فصعد المنبر فقعد عند
رجليه فقال معاوية اللهم انا نستشفع اليك اليوم
بخيرنا وفضلنا اللهم انا نستشفع اليك بيزيد بن
الاسود الجرشى يا يزيد ارفع يديك الى الله فرفع يزيد
ورفع الناس ايديهم فما كان اوشك ان تارت سحابة
في المغرب وهبت لها ريح فسقينا حتى كاد الناس
لا يتصلون الى مناظر لهم به

”بارش نہیں ہوئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہلِ دمشق بارش
کی دُعا کے لیے باہر نکلے۔ جب حضرت امیر معاویہ منبر پر بیٹھے، تو فرمایا:“

یزید بن الاسود الجہشی کہاں ہیں؟ لوگوں نے انہیں بلایا تو وہ مچلا نگتے ہوئے تشریف لائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر وہ منبر پر چڑھے اور ان کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ حضرت امیر معاویہ نے دعائ مانگی، اے اللہ! آج ہم بہتر اور افضل شخصیت کی سفارش پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ! ہم تیری بارگاہ میں یزید بن الاسود بن الجہشی کی سفارش پیش کرتے ہیں۔

یزید! اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے، لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے (اور دعا کی) اچانک مغرب کی طرف سے ایک بادل اٹھا ہوا چلنے لگی اور زوردار بارش شروع ہو گئی۔ یہاں تک کہ لوگوں کو گھروں تک پہنچنا مشکل ہو گیا۔“

اس اجتماع میں صحابہ کرام بھی موجود ہیں، تابعین بھی حاضر ہیں۔ ان میں سے کسی نے ایک مرد صالح کے وسیلے سے دعائ مانگنے پر اعتراض نہیں کیا۔ یہ بھی ان حضرات کا جواز تو تسلیم پر اجتماع ہے۔

توسل — اور ائمہ اربعہ

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں:

یا مالکی کن شافعی فی فاقتی	انی فقیر فی الوزی لعناک
یا اکرم الثقلین یا کنز الوزی	جدلی بجدک وارضنی بوجناک
انا طامع بالجد منک ولم یکن	لابی حنیفۃ فی الانام سواک

”اے میرے مالک! آپ میری حاجت میں شفیع ہوں،“

”میں تمام مخلوق میں آپ کے غمناک فقیر ہوں۔“

۱۔ ابوحنیفہ نعمان بن ثابت، امام، قصیدۃ نعمانیہ (مع الخیرات الحسان) مکتبہ نوریہ رضویہ فیصل آباد، ص ۱۹۹/۲۰۰

”اے جن وانس سے زیادہ کریم! اے مخلوق کے خزانے!

مجھ پر احسان فرمائیں اور اپنی رضا سے مجھے راضی فرمادیں۔“

”میں آپ کی بخشش کا اُمیدوار ہوں، اور آپ کے سوا مخلوق میں ابوحنیفہ کا کوئی نہیں“

حضرت امام مالک مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں منصور بن عتاس کے خلیفہ ثانی

نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار النور کی زیارت کے لیے حاضری دی تو حضرت

امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا: اے ابو عبد اللہ! میں قبلہ رخ ہو کر دعا کروں یا رسول اللہ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف رخ کروں؟ امام مالک نے فرمایا:

ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلت

ابيك ادم الى الله تعالى بل استقباله واستشفع به

فيشفعه الله فيك - له

”تم اپنا چہرہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیوں پھیرتے ہو؟ مالک

آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیرا اور تیرے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام کا وسیلہ

ہیں، بلکہ آپ کی طرف رخ کر، آپ سے شفاعت کی درخواست کر اللہ تعالیٰ

تیرے بارے میں آپ کی شفاعت قبول فرمائے گا۔“

تعجب ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں بہت سے لوگوں کو کعبہ شریف کی طرف پاؤں

پھیل کر سوتے ہوئے دیکھا گیا ہے، انہیں کوئی منع نہیں کرتا، لیکن بارگاہ رسالت میں صلوة و

سلام عرض کرنے والوں کو باصرار کہا جاتا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگو اور اللہ تعالیٰ

کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پشت کر لو۔ فی اللعجب!

والی اللہ المشتکی۔

حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

آل النبی ذریعتی و هم الیہ وسیلتی
 امر جوابہم اعطی غذا بیدی الیمن صحیفتی

”آل نبی میرا ذریعہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف میرا وسیلہ ہے۔
 مجھے امید ہے کہ ان کے وسیلے سے مجھے قیامت کے دن نامہ اعمال
 دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔“

امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے
 وعاما شی، تو ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو تعجب ہوا۔ امام احمد نے فرمایا:
 ان الشافعی كالشمس للناس وكالعافیة للبدن
 امام شافعی کی مثال ایسی ہے جیسے لوگوں کے لیے سورج اور بدن کے لیے صحت

توسل — اور ائمہ اعلام

مسئلہ توسل کے بارے میں علماء اسلام کے اقوال اور واقعات کو جمع کیا جائے، تو ایک مبسوط
 کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ اختصار کے پیش نظر چند علماء اسلام کے ارشادات نقل کیے جاتے ہیں:

امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۵۰۵ھ) آداب السفر میں فرماتے ہیں:
 ویدخل فی جملة زیارة قبور الانبیاء علیہم السلام
 و زیارة قبور الصحابة والتابعین وسائر العلماء و
 الاولیاء وکل من یتبرک بمشاهدة فی حیاتہ یتبرک
 بزیارته بعد وفاته و یجوز شد الرحال لهذا الغرض۔

الصواعق المحرقة (مکتبۃ القاہرہ، مصر) ص ۱۸۰

۱۰ احمد بن حجر المکی (م ۷۲۴ھ)

شواہد الحق (مصطفیٰ البابی، مصر) ص ۱۶۶

۱۱ یوسف بن اسماعیل البہانی،

احیاء علوم الدین (دار المعرفۃ، بیروت) ج ۲، ص ۲۴۷

۱۲ ابومحمد محمد بن محمد غزالی، الامام،

” سفر کی دوسری قسم میں انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ تابعین اور دیگر علمائے اولیاء کے مزارات کی زیارت بھی داخل ہے۔ زندگی میں جس کی زیارت سے برکت حاصل کی جاسکتی ہے۔ وفات کے بعد بھی اس کی زیارت سے برکت حاصل کی جاسکتی ہے۔“

امام ابن الحاج جو علماء متشددین میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے اولیاء کرام، انبیاء عظام اور خصوصاً حضور سید الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے توسل اور استغاثہ کا طریقہ شرح و بسط سے بیان کیا ہے۔ ذیل میں چند اقتباسات نقل کیے جاتے ہیں:

اگر میت عوام الناس میں سے ہے تو اس کی قبر کی زیارت کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ کی جانب بیٹھ کر میت کی طرف رخ کرے۔ پھلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے۔ پھر جہاں تک ممکن ہو میت کے لیے دعا کرے:

و کذا لک یدعو عند ہذا القبور عند نازلۃ نزلت بہ

او بالمسلمین ویتضرع الی اللہ تعالیٰ فی زوالھا و

کشفھا عند و عنہم لہ

” اسی طرح ان قبور کے پاس جا کر دعا کرے۔ جب زائر پر یا مسلمانوں پر کوئی

مصیبت نازل ہو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑگڑائے کہ اس مصیبت کو زائر اور

مسلمانوں سے دور فرمائے۔“

ثم یتوسل باهل تلك المقابر اعني بالصالحين منهم

فی قضاء حوائجہ و مغفرة ذنوبہ ثم یدعو لنفسہ

ولو الدیہ و لمشاغخہ و لا قاربہ و لا هل تلك المقابر

و لا موات المسلمین و لا حیائہم و ذریتہم الی یوم

الذین و لمن غاب عنہ من اخوانہ و یجأ الی اللہ تعالیٰ

بالدعاء عندهم ويكثر التوسل بهم الى الله تعالى لانه سبحانه
اجتباهم وشرفهم وكرمهم فكما نفع بهم في الدنيا
ففي الآخرة اكثر فمن اراد حاجته فليذهب اليهم و
يتوسل بهم فانهم الواسطة بين الله تعالى وخلقهم
وقد تقرر في الشرع وعلم ما الله تعالى بهم من
الاعتناء وذلك كثير مشهور وما زال الناس من العلماء
والاكابركا براعن كابرمشوقا ومغربا يتبركون بزيارة
قبورهم ويجدون بركة ذلك حسا ومعنى له

”پھر اپنی حاجتوں کے برآنے اور گناہوں کی مغفرت میں اولیاء کرام کا وسیلہ
پیش کئے، پھر اپنے لیے والدین، مشائخ اور اقربا کے لیے، ان اہل قبور کے لیے اور زندہ و مردہ مسلمانوں
اور قیامت تک آنے والی ان کی اولادوں کیلئے اور جو بھائی غائب ہیں ان سب کے لیے دعا کرے۔“

اور ان اولیاء کرام کے پاس کھڑا ہو کر عاجزانہ بارگاہ الہی میں دعا کرے اور کثرت
سے ان کا وسیلہ پیش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب فرمایا ہے اور
انہیں شرافت و کرامت سے نوازا ہے۔ جس طرح دنیا میں ان کے ذریعے نفع
عطا فرمایا ہے۔ آخرت میں اس سے زیادہ نفع ہے۔ جو شخص کسی حاجت کا ارادہ
کرے، تو وہ ان حضرات کے پاس جائے اور ان کا وسیلہ پیش کرے، کیونکہ وہ
اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں۔

شریعت میں ثابت اور معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی کتنی عزت افزائی
فرماتا ہے اور یہ بکثرت ہے اور مشہور ہے۔ علماء مشرق و مغرب کے عظیم اکابر
مزارات اولیاء کی زیارت سے برکت حاصل کرتے رہے ہیں اور حسی اور معنوی

طور پر اس کی برکت پاتے رہے ہیں۔“

پھر شیخ امام ابو عبد اللہ بن النعمان رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل کرتے ہیں؛
 تحقق لذوی البصائر والاعتبار ان زیارة قبور
 الصالحین محبوبۃ لاجل التبرک مع الاعتبار وان
 بوکۃ الصالحین جاریۃ بعد مماتہم کما کانت فی
 حیاتہم والدعاء عند قبور الصالحین والتشفع بہم
 معمول بہ عند علمائنا المحققین من ائمة الدین یہ
 ”ارباب بصیرت و اعتبار کے نزدیک ثابت ہے کہ اولیاء کرام کے مزارات
 کی زیارت برکت اور عبرت حاصل کرنے کے لیے محبوب ہے، کیونکہ اولیاء کرام
 کی برکت ان کی (ظاہری) زندگی کی طرح وصال کے بعد بھی جاری ہے۔
 اولیاء کرام کی قبروں کے پاس دُعا کرنا اور ان کو وسیلہ بنانا، ہمارے علمائے
 محققین، ائمہ عویین کا معمول ہے۔“

اس کے بعد انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مزارات پر ماضی دینے کے
 بارے میں فرماتے ہیں؛

واما عظیم جناب الانبیاء والرسل صلوات اللہ و
 سلامہ علیہم اجمعین فیأتی الیہم الزائر ویتعین
 علیہ قصدہم من الاماکن البعیدۃ، فاذا اجاء الیہم
 فلیتصف بالذل والانکسار والمسکتۃ والفقر والحاجۃ
 والاضطرار والخضوع، ویحضر قلبہ وخاطرہ الیہم
 والی مشاہدتہم بعین قلبہ لایبصر بصرہ، لانہم لایبصرون

ولا يتغيرون ثم يثني على الله تعالى بما هو اهله
 ثم يصلّي عليهم ويترضى عن اصحابهم ثم يترحم
 على التابعين لهم باحسان الى يوم الدين ثم يتوسل
 الى الله تعالى بهم في قضاء ما ربه ومغفرة ذنوبه
 ويستغيث بهم ويطلب حوائجهم منهم ويجزم الاجابة
 ببركتهم ويقوى حسن ظنه في ذلك فانهم باب
 الله المفتوح-

وجرت سنته سبحانه وتعالى في قضاء الحوائج على
 ايديهم وبسببهم ومن عجز عن الوصول اليهم
 فليرسل بالسلام عليهم ويذكر ما يحتاج اليه من
 حوائجهم ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه الى غير ذلك
 فانهم السادات الكرام والكرام لا يردون من سألهم ولا من
 توسل بهم ولا من قصدهم ولا من لجأ اليهم له
 «انبياء ورسل عليهم الصلوة والسلام» کی عظیم بارگاہ میں زائر حاضر ہو اور اس پر
 لازم ہے کہ دُور دراز سے ان کا قصد کرے۔ جب ان کی بارگاہ میں حاضر ہو تو
 عاجزی انکساری، فقر وفاقہ، حاجت و اضطرار اور فروتنی سے موصوف ہوا اپنے
 دل اور خیال کو ان کی بارگاہ میں حاضر کرے اور سر کی آنکھ سے نہیں، دل کی آنکھ
 سے ان کی زیارت کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ انبیاء کرام کے اجسام مبارک میں
 بوسیدگی اور تغیر پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے شایان شان حمد و ثناء کرے،
 انبیاء کرام پر دُور و بھیجے، ان کے اصحاب کے لیے رضائے الہی کی دُعا کرے

اور قیامت تک اصحاب کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے دعائے رحمت کرنے
 پھر اپنی حاجتوں کے برائے اور گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کی
 بارگاہ میں انبیاء کرام کا وسیلہ پیش کرے، ان کی بدولت امداد کی درخواست
 کرے اور اپنی حاجتیں ان سے طلب کرے اور یقین کرے کہ ان کی برکت سے
 دُعا مقبول ہوگی اور اس سلسلے میں تمام تر حُسن ظن سے کام لے، کیونکہ یہ حضرات
 اللہ تعالیٰ کا کھلا ہوا دروازہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی عادتِ کریمہ جاری ہے کہ اُن کے سبب اور ان کے ہاتھوں پر
 حاجتیں بر لاتی ہے جو شخص ان کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے، وہ ان کی بارگاہ میں
 سلام بھیجے اور اپنی حاجتوں، گناہوں کی مغفرت اور عیوب کی پوشیدگی وغیرہ کا
 ذکر کرے، کیونکہ یہ حضرات ساداتِ کرام ہیں اور کریم سوال کرنے والے، وسیلہ
 پکڑنے والے، قصد کرنے اور پناہ لینے والے کو رد نہیں کرتے۔“

حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے توسل

اور امام ابن الحجاج

واما فی زیارة سید الاولین والآخرین صلوات اللہ
 علیہ وسلامہ فکل ما ذکر بزیاد علیہ اضعافاً اعنی
 فی الانکسار والذل والمسکنة لانه الشافع المشفع
 الذی لا ترد شفاعتہ ولا یخیب من قصده ولا من
 نزل بسا حته ولا من استعان او استغاث به اذانه
 علیہ الصلوٰة والسلام قطب دائرة الکمال وعرس

مملکت اللہ -

فمن توسل به واستغاث به او طلب حوائجہ منہ فلا
یرد ولا یخیب لما شهدت به المعاینت والاکثار ومحتاج
الی الادب الکی فی زیارۃ علیہ الصلوٰۃ والسلام وقد
قال علماءنا رحمۃ اللہ علیہم ان الزائر یشعر نفسه بانہ
واقف بین یدیه علیہ الصلوٰۃ والسلام کما هو فی حیاتہ
اذ لافرق بین موتہ وحیاتہ اعنی فی مشاہدتہ لامتہ
ومعرفتہ باحوالہم ونیاتہم وعن ائمتہم وخواطرہم
وذلك عندہ جلی لاختفاء فیہ۔

» حضور سید الاولین والآخرین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت میں مذکور بالا
امور یعنی عاجزی، انکساری اور مسکنت میں کمی گنا اضافہ کرے، کیونکہ آپ وہ مقبول
الشفاعۃ شفیع ہیں، جن کی شفاعت رد نہیں کی جاتی۔ آپ کا قصد کرنے والا آپ
کے دربار میں حاضر ہونے والا آپ سے استعانت و استغاثہ کرنے والا محروم
نہیں ٹوٹا یا جاتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دائرہ کمال کے قطب اور
ملک الہی کے ڈولہا ہیں۔

جو شخص آپ کا وسیلہ پکڑتا ہے یا آپ کے ذریعے مدد طلب کرتا ہے اپنی حاجتیں
طلب کرتا ہے، وہ محروم نہیں کیا جاتا۔ مشاہدہ اور آثار اس پر شاہد ہیں۔ آپ کی
زیارت میں کامل ادب کی ضرورت ہے۔ ہمارے علماء رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
زائر یوں محسوس کرے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں جیسے کہ آپ کی حیات
ظاہرہ میں تھا، کیونکہ آپ کی موت اور حیات میں فرق نہیں ہے۔ آپ امت کا

مشاہدہ فرماتے ہیں اور اُن کے اعمال، نیتوں، ارادوں اور خیالات کو
ملاحظہ فرماتے ہیں اور یہ آپ کے نزدیک ظاہر ہے، اس میں کوئی خفا نہیں ہے۔

ابھی امام ابن الحاج کی یہ عبارت گزری ہے،

فمن اراد حاجة فليذهب اليهم ويتوسل بهم فانهم
الواسطة بين الله تعالى وخلقہ

”جو شخص کسی حاجت کا ارادہ کرے، وہ اولیاء کرام کے موارات پر جائے اور

ان کا وسیلہ پڑے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں“

حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں،

قيل اذ تحيرون في الامور فاستعينوا من اهل القبور

”کہا گیا ہے کہ جب تم مختلف امور میں حیران ہو جاؤ، تو اہل قبور سے استعانت کرو“

یعنی اہل قبور کے وسیلے سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ مرادیں برلائے گا۔

امام علامہ تقی الدین سبکی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،

اعلم انه يجوز ويحسن التوسل والاستعانة والتشفع

بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى ربه سبحانه وتعالى

وجواز ذلك وحسنه من الامور المعلومه لكل ذي دين

المعروفة من فعل الانبياء والموسلين وسير السلف

الصالحين والعلماء والعوام من المسلمين ولم ينكر

احد ذلك من اهل الاديان ولا سمع به في من من

من الازمان حتى جاء ابن تيمية فتكلم في ذلك بكلام

لہ ابن الحاج، امام، المدخل ص ۲۲۹

تہ علی بن سلطان محمد القاری؛ شرح مسند امام اعظم (مطبع مجتہاتی، دہلی) ص ۱۱۴

یلبس فیہ علی الضعفاء والاغصاء۔ لہ
 نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے توسل، استعانت اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ
 میں شفاعت کی درخواست جائز اور مستحسن ہے۔ اس کا جواز اور حُسن، ان امور
 میں سے ہے جو ہر مومن کو معلوم ہے اور انبیاء و مرسلین، سلف صالحین، علماء
 اور عامۃ المسلمین کا طریقہ ہے، کسی دین والے نے اس کا انکار نہیں کیا اور
 نہ ہی کسی زمانے میں یہ انکار سنا گیا۔ یہاں تک ابن تیمیہ آیا اور اُس نے اس
 میں کلام کیا۔ ضعیف اور ناواقف لوگوں کے لیے تلبیس سے کام لیا۔“

علامہ ابن حجر عسقلانی بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں:

یاسیدی یا رسول اللہ قد شرفت
 قصائدی بمدیح قدر صفا
 مدحتک الیوم ارجو الفضل منک عند
 من الشفاعة فاحظی بھا طرفا
 بکم توصل یرجو العفو عن نر لل
 من خوفہ جفنة الهامی لقد ذرفا

”میرے آقا! اے اللہ کے رسول! آپ کی مدح میں کہے ہوئے میرے قصیدے
 شرافت والے ہو گئے ہیں۔“

”آج میں نے آپ کی نعت کہی ہے اور کل مجھے آپ سے شفاعت کی امید ہے
 وہاں مجھے بھی نظر میں رکھیے۔“

”بندۂ گنہگار نے آپ کا وسیلہ پکڑا ہے، اُسے امید ہے کہ لغزشیں معاف کر دی
 جائیں گی، خوف کے سبب اس کی پلکوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔“

شفار السقام (مکتبہ نوریہ رضویہ فیصل آباد) ص ۱۶۰
 المجموعۃ البہانیہ (دار المعرفۃ، بیروت) ج ۲، ص ۳۹۱

ابو تقی الدین السبکی، الامام،
 ابو یوسف بن اسماعیل البہانی،

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ تقریباً ہر طبقے میں احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں،

واظہر لی الاسرار و عرفنی بنفسہ و امدانی امداداً
عظیماً اجمالیاً و عرفنی کیف استمد بہ فی حوائجی
”نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ پر اسرار ظاہر فرمائے اور مجھے خود ان
چیزوں کی پہچان کرائی اور میری بہت بڑی اجمالی امداد فرمائی اور مجھے بتایا کہ
میں اپنی حاجتوں میں آپ سے کس طرح مدد مانگوں۔“

اپنے قصیدہ الطیب انعم کی شرح میں فرماتے ہیں،
فصل اول در تشبیب بذکر بعض حوادث زمان کہ در آن حوادث للبدست
از استمداد بروح آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

”پہلی فصل میں بطور تشبیب زمانے کے وہ حوادث بیان کیے جاتے ہیں،
جن میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح انور سے استمداد ضروری ہے۔“
قصیدہ الطیب انعم میں عرض کرتے ہیں،

وصلیٰ علیک اللہ یاخیر خلقہ و یاخیر مأمول و یاخیر و اہب
و یاخیر من یرجی لکشف رزقہ و من جودہ قدفاق جود السعائب
وانت مجیری من صوم مملئہ اذا نشبت فی القلب شراً الخائب

”اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں نازل فرمائے اے تمام مخلوق سے بہتر!
اے بہترین جاسے اُمید! اور اے بہترین عطا فرمانے والے!

لے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، فیوض الحرمین (محمد سعید ایڈیٹرز، کراچی) ص ۸۶

لے ایضاً الطیب انعم (مطبع مجتہانی، دہلی) ص ۲

لے ایضاً ” ” ” ” ص ۲۲

اور اے بہترین وہ ذات کہ مصیبت دور کرنے کی جن سے اُمید کی جاتی ہے اور جن کی سخاوت بادلوں سے بلند و بالا ہے۔“
 ”آپ مصیبتوں کے وقت پناہ دینے والے ہیں، جب وہ اپنے بدترین پنچے دل میں گاڑ دیں۔“

توسل — اور اہل حدیث کے مسلم علماء

اس سے پہلے جن اکابر علماء کے ارشادات نقل کیے گئے ہیں، ان کی حیثیت بہت بڑی فکر کے نزدیک محترم اور مستند ہے۔ ذیل میں خصوصیت کے ساتھ چند اقتباسات ان علماء کے پیش کیے جاتے ہیں، جن کی حضرات غیر مقلدین کے نزدیک بڑی وقعت ہے۔
 علامہ ابن قیم لکھتے ہیں،

لأسبيل إلى السعادة والصلاح لا في الدنيا ولا في
 الآخرة إلا على أيدي الرسل (إلى أن قال) ولا
 ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم له
 ”دنیا و آخرت میں سعادت و صلاح صرف رسولان گرامی کے ہاتھوں ہے،
 اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ان ہی کے ہاتھوں ہے۔“

علامہ ابن تیمیہ اپنے رسالہ ”التوسل والوسیة“ میں لکھتے ہیں کہ صحابہ مہاجرین و انصار کی موجودگی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دُعا صحیح اور اہل علم کے نزدیک بالاتفاق ثابت ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے حضرت عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کے وسیلے سے
 دُعا مانگی،

هذا دعاء اقره علي جميع الصحابة لم ينكر علي احد

زاد المعاد مصطفیٰ البانی، مصر الطبعة الثانية، ج ۱، ص ۱۵

لہ ابن قیم الجزیری،

مع شہرتہ وهو من اظہر الاجماع الاقرا ریتو
 ودعا بمثلہ معاویۃ بن ابی سفیان فی خلافتہ
 ”یہ وہ دعا ہے جسے تمام صحابہ نے برقرار رکھا اور کسی نے اس پر انکار نہیں
 کیا، حالانکہ یہ دعا مشہور ہے۔ یہ واضح ترین اجماع اقراری ہے، ایسی ہی دعا
 حضرت امیر معاویہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے اپنے دور خلافت میں مانگی تھی“
 قاضی شوکانی اپنے رسالہ الدر النضید میں لکھتے ہیں:

ان التوسل بہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یكون فی حیاتہ
 وبعد موتہ و فی حضورتہ و مغیبتہ۔ انه قد ثبت التوسل
 بہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی حیاتہ و قد ثبت التوسل
 بغيرہ بعد موتہ باجماع الصحابة۔ ۱

”حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے توسل آپ کی حیات میں بھی ہے اور
 وصال کے بعد بھی، آپ کی بارگاہ میں بھی ہے اور بارگاہ سے دور بھی، حضور اکرم
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ سے توسل ثابت ہے۔
 آپ کے وصال کے بعد دوسروں سے توسل ثابت ہے۔“
 نواب صدیق حسن خاں بھوپالی عرض کرتے ہیں:

یا سیدی یا عروقی ووسیلتی	یا عدتی فی شدۃ ورتحای
قد جئت ہابک ضارعا متضرعا	متاؤھا بتنفس سعداء
مالی وراءک مستغاث فارحمین	یا رحمتہ للعالمین بکافی علیہ

۱۔ محمد عبدالرحمن؛ تحفۃ الاحوذی شرح ترمذی ج ۲، ص ۲۸۲

۲۔ ایضاً؛ ” ” ” ” ” ”

۳۔ وحید الزمان، نواب؛ حاشیہ ہدیۃ المہدی (اسلامی کتب خانہ سیالکوٹ) ص ۳۰

” اے میرے آقا! اے میرے سہارے، میرے وسیلے،

سختی اور نرمی میں میرے کام آنے والے۔“

” میں آپ کے دروازے پر اس حال میں حاضر ہوا ہوں کہ میں

ذلیل ہوں، گڑگڑا ہوں اور میری سانس پھولی ہوئی ہے۔“

آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے جس سے مدد مانگی جاسکتے۔

اے رحمۃ للعالمین، میری آہ و بکاہ پر رحم فرمائیے۔“

نواب وحید الزمان لکھتے ہیں:

ولیت شعری اذا جاز التوسل الی اللہ بالاعمال
الصالحۃ فیتقاس علیہا التوسل بالصالحین ایضاً

قال الجزری فی المحسن فی آداب الدعاء منها ان یتوسل

الی اللہ تعالیٰ بانبیائہ والصالحین من عبادہ۔ لے

”جب کتاب وسنت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال صالحہ کا وسیلہ پیش

کرنا جائز ہے، تو اس پر اولیاء کرام کے توسل کو قیاس کیا جائے گا۔ علامہ

جزری، حصن حصین میں فرماتے ہیں دُعا کا ایک ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

کی بارگاہ میں انبیاء و اولیاء کا وسیلہ پیش کیا جائے۔“

توسل — اور علماء دیوبند

مولوی محمد تاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند اپنے قصائدِ قاسمی میں

عرض کرتے ہیں:

یا مرشدی یا موئلی یا مفرعی یا ملجأی فی مبدئی و معادی
 ارحم علیٰ ایاتہا فلیس لی کھنی سوی حُبیتکم من نراہ
 فائز الانام بکمروانی ہائم فانظر الیٰ برحمتہ یا ہام
 یاسیدی للہ شیئا انہ انتم لی المجدی وانی جادی

”اے میرے مرشد! میرے مولیٰ! میری وحشت کے نیس،

میری دنیا کے، میرے دین کے اے جاتے پناہ۔“

اے میرے فریاد رسا! مجھ پر ترس کھاؤ کہ میں آپ کی حبت کے سوا

رکھتا نہیں کوئی توشہ راہ۔“

”خلق فائز ہوشہا آپ سے اور میں حیران، رحم کی ہادی من اب تو ادھر

کو بھی نگاہ!“

میرے سردار! خدا واسطے کچھ تو دیجیے۔ آپ معطی ہیں میرے، میں ہوں

سوالی للہ! (یہ ترجمہ تذکرۃ الرشید کے حاشیہ سے لیا گیا ہے)

مٹھانوی صاحب بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں:

یا حبیب الالہ خذ بیدی ما لعجزنی سوائی مُستندی

کن رحیما لذلتی واشفع یا شفیع الوردی الی الصمد

اعتصامی سوی جنابک لی لیس یاسیدی الی احد

”اے اللہ کے محبوب! میری دستگیری فرمائیں، میرے عجز کا آپ کے سوا

کوئی ٹھکانا نہیں۔“

”آپ میری لغزش پر رحم فرمائیں اور اے مخلوق کی شفاعت کرنے والے،

اللہ تعالیٰ بارگاہ میں شفاعت فرمائیں۔“

اے محمد عاشق الہی میرٹھی، تذکرۃ الرشید (مکتبہ بحر العلوم، کراچی) ج ۱، ص ۱۱۴

”آقا! آپ کے دربار کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں!

آخر میں صحابہ و تابعین کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں“

استعينوا لعاجز مضطر شتموا ذيلكم الى الممدد

”عاجز و مضطر کے لیے (اللہ تعالیٰ سے) مدد طلب کریں اور مدد کے لیے

تیار ہو جائیں۔“

توسل — اور عالم اسلام کے موجودہ علماء

فاضل علامہ مولانا محمد عاشق الرحمن قادری الہ آباد نے اپنی تالیف مجاہدیت کا حرف حقانیت میں پاک و ہند اور دیگر ممالک کے علماء سے حاصل کردہ ایسے فتاویٰ جمع کر دیئے ہیں جو مسئلہ توسل سے متعلق ہیں۔ اس کتاب کے چند اقتباسات ذیل میں پیش کیے جاتے ہیں:

خطیب بغداد

حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جامع مسجد بغداد کے امام اور مدرس، مولانا عبدالکریم محمد، توسل کے جائز ہونے پر دلائل پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

فكيف يبقى مجال انكار التوسل بذوات الرسل عليهم

الصلوة والسلام فالتوسل بهم وبالاولياء الكرام و

باعمالهم الصالحة و باعمال نفس الداعين كل ذلك حق

لہ اشرف علی تھانوی؛ ضمان تکمیل فی زمان التجیل (مطبع مجتہدی دہلی) ص ۱۷۲

ص ۲۵ - ۲۳

حرف حقانیت

لہ محمد عاشق الرحمن قادری؛

سے توسل میں شرعاً ہرگز کوئی مانع نہیں ہے، بلکہ شفاعت کی طرح توسل بھی توحید کے منافی نہیں ہے۔“

حماتہ شام کے جلیل القدر عالم مولانا محمد علی تحریر فرماتے ہیں،
 واذا كان التوسل مشروعاً بالاعمال الصالحة دون
 معارض وھی مخلوقۃ مع كونها لا ندری هل تلك
 الاعمال مقبولة ام لا؟ فكيف لا يجوز التوسل بالنبي
 صلى الله تعالى عليه وسلم وهو افضل مخلوق ومقبول
 لدى الله تعالى في حياته وبعد وفاته باعتبار حياة
 وتعرض عليه اعمالنا كما ورد۔ لہ

”جب اعمال صالحہ سے توسل جائز ہے اور اس کا کوئی مخالف نہیں ہے حالانکہ
 یہ مخلوق ہیں اور ہمیں معلوم نہیں کہ وہ اعمال مقبول ہیں یا نہیں، تو حضور نبی کریم
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے توسل کیوں جائز نہ ہوگا؟ جبکہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ
 میں ہر مخلوق سے افضل ہیں، اپنی ظاہری حیات میں بھی اور وصال کے بعد بھی،
 کیونکہ آپ زندہ ہیں اور ہمارے اعمال آپ کے سامنے ہمیشہ پیش کیے جاتے
 ہیں، جیسے کہ احادیث میں وارد ہے۔“

خطیب شام حماتہ، شام کے علامہ عبدالعزیز طہماز مدرس وخطیب
 جامع سلطان فرماتے ہیں،

واذا كانت الشفاعة ليست شركاً فالوسيلة ايضاً
 ليست شركاً لانها بمعناها فھی ليست سوى مكانة
 يتفضل بها على من يشاء من عبادة اظهار الفضله

لہ محمد عاشق الرحمن قادری۔ حرفِ حق نیت ص ۱۱

سُبْحَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ، قَالَ سُبْحَانَ فِي حَقِّ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ
وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا (الانبیاء) اَفْلا يَكُونُ خَاتِمَ
الرِّسَالِ وَالْاَنْبِيَاءِ وَجِيهًا عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَہ ؟ لہ
” جب شفاعت شرک نہیں ہے، تو وسیلہ بھی شرک نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں
کا ایک ہی مطلب ہے۔ وسیلہ کا مطلب اس کے علاوہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
ایک مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عبد مکرم پر احسان کو ظاہر کرنے کے لیے اس مقام
کی بدولت جس بندے پر چاہتا ہے فضل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے: وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا
کیا انبیاء و رسل کے خاتم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معزز نہیں ہوں گے؟“
حماة شام کے مفتی علامہ صالح النعمان، خطیب جامع مدرن لکھتے ہیں،
وقد اجمعت الامة على جواز التوسل اذا صحت العقيدة
واجتماع الامة حجة شرعية كما قال عليه السلام
لا تجتمع امتي على ضلالة اماما يدعي بعض الغلاة
من الوهابية بان حكم التوسل انه شرك فلا دليل
عليه شرعاً ولا عقلاً
توسل کے جائز ہونے پر امت کا اجماع ہے، بشرطیکہ عقیدہ صحیح ہو اور اجماع
امت حجت شرعیہ ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میری
امت گمراہی پر متفق نہ ہوگی۔ بعض غالی و ہابی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ توسل شرک
ہے، تو اس پر شرعی یا عقلی کوئی دلیل نہیں ہے۔

ص ۱۵

حرف حقانیت

لہ محمد عاشق الرحمن قادری

ص ۵۵

” ”

لہ ایضاً

مشفق کی جامع النجارین کے امام، علامہ ابو سلیمان زبیری نے مسئلہ تو تسئلہ
گفتگو فرمائی ہے اور اپنا موقف ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

ان الاعتقاد بالتوسل بالانبياء والمرسلين عليهم الصلوة
والتسليم والاولياء الصالحين المجمع على فضلم
وصلاحهم وعد لهم ولا يثم ايمان لا كفر جائز
عندي لا محظور وان التوسل بهؤلاء الى الله تعالى
لتقضى حاجاته يكون مؤمنا موحد اليس بمشرك و
تصحيح جميع عباداته له

”انبياء و مرسلين عليهم الصلوة والسلام اور ان اولياء صالحين سے توسل کرنا جن
کی فضیلت، تقویٰ اور عدالت و ولایت پر اتفاق ہے، ایمان ہے کفر نہیں ہے،
اور میرے نزدیک جائز ہے، ممنوع نہیں ہے اور جو شخص اپنی حاجتوں کے حصول
کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان حضرات کا وسیلہ پیش کرتا ہے، وہ مومن موحّد
ہے مشرک نہیں اور اس کی تمام عبادتیں صحیح ہیں۔“

جمہوریہ لبنان کے مفتی شیخ حسن خالد (بیروت) فرماتے ہیں،
واما التوسل بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم
والتوجه به في كلام الصحابة فيريدون به التوسل
بذواتهم وشفاعته وعلى التوسل
بالانبياء والصالحين احياء واموات اجرت الامة
طبقة طبقة - له

۱۔ محمد عاشق الرحمن قادری، حرف حقانیت، ص ۵۹
۲۔ ایضاً، ص ۷۱

”صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے کلام میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تو تسل اور آپ کی طرف متوجہ ہونے سے ان کی مراد آپ کی دعا و شفاعت کو وسیلہ بنانا ہے۔ امت مسلمہ انبیاء و اولیاء سے ان کی ظاہری حیات ہیں اور وصال کے بعد ہر دور میں تو تسل کرتی رہی ہے۔“

صدر مجلس اتحاد مبلغین انڈونیشیا

جاکرتا انڈونیشیا کی مرکزی مجلس اتحاد مبلغین کے صدر شیخ احمد شیخوفاتے ہیں،
 واقول ان التو تسل بالنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 جائز فی کل قبل خلقه وبعد خلقه فی مدۃ حیاتہ
 فی الدنیا وبعد موتہ فی مدۃ البرزخ وبعد الموت
 فی عرصات القیامۃ والجنۃ
 ”میں کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تو تسل ہر حال میں جائز ہے
 آپ کی ولادت باسعادت پہلے، ولادت کے بعد حیات ظاہری میں، وصال
 کے بعد جب تک کہ آپ عالم برزخ میں رہیں گے اور قبروں سے اٹھائے
 جانے کے بعد قیامت اور جنت کے میدانوں میں۔“

ندوة العلماء لکھنؤ

ندوة العلماء لکھنؤ کے ناظم مجلس تحقیقات شرعیہ مولوی محمد ربان الدین نے
 علامہ ابوالحسن علی ندوی کے ایما پر ایک استفتا کے جواب میں یہ فتویٰ
 صادر کیا:

لہ محمد عاشق الرحمن قادیانی حرفِ حقانیت ص ۷۷

ان الاعتقاد بالتوسل بالانبياء ليس شركاً
فالتوسل ليس بمشرك فنرجو الله تعالى ان يتقبل
اعماله الصالحة من الصلوة والحج وغيرهما
”انبياء سے توسل کا عقیدہ رکھنا شرک نہیں ہے، لہذا وسیلہ پکڑنے والا
مشرک نہیں ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال صالحہ نماز، حج
وغیرہ کو قبول فرمائے گا۔“

دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء سے شیخ نظام الدین نے متعدد احادیث نقل
کرنے کے بعد لکھا:

”ان عبارتوں سے معلوم ہوا اور واضح ہوا کہ یہ لوگ نہ تو مشرک ہیں اور نہ یہ
فعل شرک ہے۔ ان کے روزے، نماز، حج، زکوٰۃ سب مثل دیگر مسلمانوں
کے جائز و صحیح ہیں۔“ لے

شیخ عبدالعزیز بن باز

سعودی عرب کے ادارہ بحوث اسلامیہ و افتاء کے رئیس شیخ عبدالعزیز بن باز
بن باز نے مولانا محمد عاشق الرحمن قادری الہ آبادی کے استفتاء کے جواب میں ۲۰ ذوالحجہ
۱۴۰۰ھ کو پہلے سے لکھا ہوا ایک جواب بھجوایا جس میں اولیاء کرام سے توسل کی چار قسمیں
بیان کی ہیں، خلاصہ درج ذیل ہے:

۱۶۱ ص	حرف حقانیت	لے محمد عاشق الرحمن قادری
۱۶۴ ص	” ”	لے ایضاً

(۱) زندہ ولی سے درخواست کی جائے کہ میرے لیے رزق کی وسعت مرض سے شفا یا ہدایت و توفیق کی دعا فرمائیں، یہ جائز ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت و اتباع اور محبت اولیاء کا وسیلہ پیش کیا جائے، یہ بھی جائز ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ سے انبیاء و اولیاء کے جاہ و منزلت کے وسیلہ سے دعا کرے

یہ ناجائز ہے۔

(۴) بندہ اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہوئے نبی یا ولی کی قسم دے یا بحق نبیہ یا بحق اولیائہ کہے، تو یہ ناجائز ہے۔

الثالث، ان یسأل اللہ بجاہ انبیائہ او ولی من

اولیائہ... فنہذا الایحوز۔

الرابع، ان یسأل العبد ربہ حاجتہ مقسماً بولیہ

او نبیہ او بحق نبیہ او اولیائہ... فنہذا الایحوز۔

اس فتویٰ پر نائب رئیس عبدالرزاق عقیفی اور ارکان لجنہ عبداللہ منیع اور عبداللہ

بن غدیان کے دستخط ہیں۔

گزشتہ صفحات میں تیسری اور چوتھی قسم کا حکم صحابہ کرام اور علماء اسلام کے حوالے

سے بیان کیا جا چکا ہے۔ اس جگہ صرف اس قدر کہنا ہے کہ نجدی علماء اور ندوۃ العلماء کے

اراکین نے اپنے تمام تر تشدد کے باوجود ان قسموں کو صرف ناجائز کہا ہے، بشرک قطعاً

نہیں کہا۔ مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری

مسند توسل پر مولانا مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی قادری مدظلہ کا ایک مبسوط اور مدلل

عربی فتویٰ بھی "حرف حقانیت" میں شامل ہے جس میں بیسیوں مستند ماخذ کے حوالہ جات

درج ہیں۔ یہ فتویٰ مکتبہ قادریہ لاہور کی طرف سے اُردو ترجمہ کے ساتھ طبع ہو چکا ہے۔
مکتبہ ایشیق، استانبول، ترکیا کی طرف سے التوسل کے نام سے عربی میں چھپ چکا ہے۔

السید یوسف السید ہاشم الرفاعی، کویت

حضرت شیخ سید احمد رفاعی کبیر قدس سرہ کی اولاد امجاد میں سے کویت کے معروف اور
عظیم المرتبت سکالر، سید یوسف ہاشم رفاعی مدظلہ تحریر فرماتے ہیں:

والحاصل ان مذهب اهل السنة والجماعة صحة
التوسل وجوازہ بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم في
حياته وبعد وفاته وكذا بغيرة من الانبياء
والمرسلين والاولياء والصالحين كما دللت
الاحاديث السابقة..... واما الذين يفرقون
بين الاحياء والاموات حيث جوزوا بعض التوسلات
بالاحياء لا للاموات، فهم القريبون من النزل
لانهم اُعتبروا ان الاحياء لهم التأثير دون
الاموات، مع انه لا تأثير ايجاد يا غير الله سبحانه
وتعالى على الاطلاق واما الافادة وفيض البركات
والاستفادة من ارواحهم استفادة اعتيادية،
وتوجه ارواحهم الى الله سبحانه وتعالى طالبين
فيض الرحمة على ذلك المتوسل، فهو شئ جائز و
واقع وخال عن كل خلل بدون الفرق بين الاحياء والاموات

لے السید یوسف السید ہاشم الرفاعی، الردا لم حکم المنیع (کویت ۱۹۸۴ء) ص ۶-۷

”حاصل یہ کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیاتِ ظاہرہ میں اور وصال کے بعد اسی طرح باقی انبیاء و مرسلین اور اولیاء و صالحین سے تو تسل صحیح اور جائز ہے جیسے کہ گزشتہ احادیث سے ثابت ہوا جو لوگ زندوں اور مردوں میں فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زندوں سے تو تسل کی بعض قسمیں جائز ہیں اور جو وصال فرما چکے ہیں، ان سے جائز نہیں، وہ لغزش کے قریب ہیں، کیونکہ وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ زندہ تاثیر کر سکتے ہیں، مرنے نہیں کر سکتے، حالانکہ ایجادی تاثیر اللہ تعالیٰ کے سوا مطلقاً کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ رہا فائدہ دینا اور برکتیں عطا فرمانا اور ان کی رُوحوں سے عادی استفادہ اور ان کی رُوحوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو کر اس متو تسل کے لیے فیضِ رحمت کا طلب کرنا تو یہ جائز اور واقع ہے اور برخلل سے خالی ہے، زندوں اور وصال یافتہ حضرات میں فرق نہیں ہے۔“

حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

سے قیامت کے دن تو تسل!

امام علامہ تقی الدین سبکی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

الحالة الثانية بعد موته صلى الله تعالى عليه وسلم
في عرصات القيامة بالشفاعة من صلى الله تعالى عليه
وسلم وذاك مما قام عليه الاجماع وتواترت
الاجابار به۔ لہ

شفاہ السقام ص ۱۷۳

لہ تقی الدین سبکی، امام،

”یہ فقیر سفر حج میں جب لاہور پہنچا اور شیخ محمد سعید لاہوری کی دست بوسی کی تو انہوں نے مجھے دعائے سیفی کی اجازت دی، بلکہ جواہر خمسہ کے تمام اعمال کی اجازت دی اور اپنی سند بیان کی، وہ اس زمانہ میں طریقہ آسنیہ اور شطاریہ کے اکابر مشائخ میں سے تھے۔“

اسی جواہر خمسہ میں یہ عمل بھی ہے:

فتوح ابواب اقبال کے واسطے ہر روز پانسو بار پڑھے:

ناد علیا مظهر العجائب تجده عونالك
فی التوائب کل ہم و غم سینجلی بدتوتک یا حمد
و بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ ۱۷

یہ ورد کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استعانت اور توسل ہے۔ اس میں اگر شرک کی کوئی بات ہوتی تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جواہر خمسہ کے اعمال کی اجازتیں لیتے؟ حضرت شاہ صاحب اور ان کے مشائخ اس شرک کو برداشت کرتے؟ ہرگز نہیں!

شیخ الاسلام شہاب الدین رملی کا عقیدہ ملاحظہ ہو:

سئل شیخ الاسلام الرملی عما یقع من العامة
عند الشدائد یا شیخ فلان و نحو ذالک فهل للمشاخ
اغاثة بعد موتهم؟ فاجاب بان الاستغاثة بالاولیاء
والانبیاء والصالحین والعلماء جائزۃ فان لهم اغاثة
بعد موتهم کحیاتهم فان معجزات الانبیاء کرامتہم للاولیاء۔ ۱۷

۱۷ شاہ محمد غوث گوالیاری؛ جواہر خمسہ (دارالاشاعت، کراچی) ص ۴۵۳

۱۷ شیخ حسن العدوی الحمزاوی؛ مشارق الانوار (المطبعة الشرفیة، مصر) ص ۵۹

”شیخ الاسلام رملی سے پوچھا گیا کہ عوام الناس جو مصیبتوں کے وقت یا شیخ فلاں وغیرہ کہتے ہیں کیا مشائخ وصال کے بعد امداد فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اولیاء، انبیاء، صالحین اور علماء سے استغاثہ جائز ہے کیونکہ وہ وصال کے بعد امداد فرماتے ہیں جیسے اپنی حیات میں امداد فرماتے تھے، اس لیے کہ انبیاء کے معجزے اولیاء کی کرامتیں ہیں۔“

علامہ ابن الحاج فرماتے ہیں:

فان قال القائل: هذه الصفات مختصة بالسولي سبحانه وتعالى فاجواب ان كل من انتقل الى الآخرة من المؤمنين، فهم يعلمون احوال الاحياء غالباً وقد وقع ذلك في الكثرة بحيث المنتهى من حكايات وقعت منهم ويحتمل ان يكون علمهم بذلك حين عرض اعمال الاحياء عليهم ويحتمل غير ذلك وهذه اشياء مغيبة عنا.

وقد اخبر الصادق عليه الصلوة والسلام بعرض للاعمال عليهم فلا بد من وقوع ذلك والقياسية فيه غير معلومة، والله اعلم بها، وكفى في هذا بيانا قوله عليه الصلوة والسلام المؤمن ينظر بنور الله، ونور الله لا يحجب شيئاً، هذا في حق الاحياء من المؤمنين، فكيف من كان منهم في الدار الآخرة۔

”اگر کوئی شخص کہے کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تمام مومنین جو آخرت کی طرف انتقال کر چکے ہیں، اکثر بیشتر زندوں کے احوال جانتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کے واقعات انتہائی کثرت کو پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ انہیں اس وقت علم بموجب زندگی کے اعمال ان پر پیش کیے جائیں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے اور یہ چیزیں ہم سے مخفی ہیں۔

نبی صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اموات پر اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لہذا اس کا وقوع ضروری ہے، البتہ کیفیت معلوم نہیں ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس حقیقت کے بیان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کافی ہے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نور کو کوئی چیز نہیں روک سکتی، یہ زندہ مومنوں کے حق میں ہے۔ ان مومنوں کا کب عالم ہوگا جو دارِ آخرت میں ہیں؟

حضرت علامہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ اس عقیدے میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں۔ نیز جب زندہ مومن اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے تو جو حضرات اگلے جہان میں جا چکے ہیں، ان کی قوت اور اک تو اور بھی بڑھ جائے گی۔

حضرت علامہ شیخ حسن العدوی الحزازی فرماتے ہیں:

وما يقع من بعض العوام من قولهم يا سيدي فلان مثلا ان قضيت لي كذا او شفيت لي مريضى فلان على كذا فهو من الجهل بالنسبة بكيفية الطلب ولكن لا يعد كفر لانهم لا يقصدون بذلك الايجاد من الولي وانما يجعلونه في نياتهم وسيلة الى مولا هم

حيث كان المتوسِّل به في اعتقادهم من اهل القرب
 والمحبة للخالق الا ترى انهم يكرهون في اثناء
 كلامهم يا صاحب النفس الطاهر عند ربك اطلب
 لي من مولاك يفعل بي كذا فان ذلك دليل منهم
 على انفراد الله بالفعل وانه لا شيءي للولي الا مجرد
 التسبب وانه لا يُردُّ المتوسِّل به لان القريب
 المحبوب لا يرد -

فهو من باب قوله صلى الله تعالى عليه وسلم رَبِّ
 اشعث اغبر ذى طمرين لو اقسام على الله لا برة و
 قد ذكر بعض العارفين ان الولى بعد موته اشد
 كرامة منه في حال حياته لا نقطاع تعلقه بالمخلوق
 وتجرد روحه للخالق فيكرمه الله بقضاء حاجة
 المتوسِّلين به له

” یہ جو بعض عوام کہتے ہیں یا سیدی فلاں مثلاً اگر آپ میری یہ مراد پوری کر دیں
 یا میرے مریض کو شفا دیں، تو آپ کے لیے میرے ذمے اتنی چیز ہے، تو یہ
 مانگنے کے طریقے سے جہالت ہے رکھنا یہ چاہیے کہ یا اللہ فلاں بزرگ کے
 طفیل میری حاجت پوری فرما، لیکن اسے کفر قرار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ
 ان لوگوں کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ولی میرے مقصد کو پیدا کرے گا، ان کی تبت
 تو یہ ہوتی ہے کہ اس ولی کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنائیں، کیونکہ جس کا وسیلہ
 پیش کیا جا رہا ہے وہ ان کے اعتقاد میں اللہ تعالیٰ کا مقرب اور محبوب ہے

کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ اپنی گفتگو میں بار بار اس قسم کی باتیں کہتے ہیں اسے بارگاہِ خدا میں پاکیزہ نفس والے اپنے رب سے درخواست کریں کہ میرا یہ مقصد پورا فرمادے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک فاعل صرف اللہ تعالیٰ ہے، ولی صرف سبب اور وسیلہ ہے اور اس کا وسیلہ بکڑے والے مردود نہیں ہوتا، کیونکہ محبوب اور مقرب کے سوال کو رد نہیں کیا جاتا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کے قبیلے سے ہے کہ کئی پرانگندہ بالوں والے گرد آلود جن کا سرمایہ حیات دو چادریں ہوں ایسے ہوتے ہیں کہ اگر قسم دے کر بارگاہِ الہی میں کچھ عرض کریں تو اللہ تعالیٰ اُسے پورا فرمادیتا ہے۔ بعض عارفین نے فرمایا: ولی کی زندگی کی نسبت، وصال کے بعد کرامت کا زیادہ ظہور ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق مخلوق سے منقطع ہو چکا ہے اور اس کی روح کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ان کا وسیلہ پیش کرنے والوں کی حاجتیں پوری فرمادیتا ہے۔“

حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت محمود غزنوی کے پاس حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جبہ مبارک تھا۔ سو منات کی جنگ میں ایک موقع پر خدشہ ہوا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی۔ سلطان محمود غزنوی، اچانک گھوڑے سے اتر کر ایک گوشے میں چلے گئے۔ وہ جبہ ہاتھ میں لے کر سجدے میں چلے گئے اور دعا مانگی:

”الہی بابروئے خداوندی خرقہ کہ مارا بریں کفار ظفروہ کہ ہرچہ از عنیت

می گیرم بدرویشاں دہم لہ

”بار الہا! اس جتے والے کے وسیلے سے ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما جو

کچھ مالِ عنیت ہاتھ آتے گا، درویشوں میں تقسیم کر دوں گا۔“

اچانک دشمن کی طرف سے شورا اٹھا اور تاریکی چھا گئی اور کافر آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے اور مختلف حصوں میں بٹ گئے، لشکرِ اسلام کو فتح حاصل ہو گئی۔ اس رات محمود غزنوی نے حضرت ابوالحسن خرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں فرماتے ہوئے سنا،
 اے محمود! آبروئے خرقہ ما برودی بر در گاہِ حق کہ اگر در اں ساعت
 درخواستی جملہ کفار را اسلام روزی کر دے۔

”محمود! تم نے دربارِ الہی میں ہمارے جتے کی قدر نہ کی، اگر تم چاہتے تو
 تمام کافروں کے لیے اسلام کی درخواست کرتے۔“

فقیرِ جلیل حضرت علامہ ابن عابدین شامی، کتاب اللقطہ کے آخر میں ایک منہیہ
 (حاشیہ) میں فرماتے ہیں:

قرر الزیادی ان الانسان اذا ضاع له شیئی وامراد
 ان یؤد الله سبحانہ علیہ فلیقف علی مکان عال
 مستقبل القبلة ویقرأ الفاتحة ویهدی ثوابها
 للنبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ثم یهدی ثواب ذالک
 لسیدی احمد بن علوان ویقول یاسیدی احمد
 یا ابن علوان ان لم ترؤد علی ضالتي والا نزعک
 من دیوان الاولیاء فان الله یؤد علی من قال
 ذالک ضالته ببرکتہ، اجمہوری مع زیادة کذانی
 حاشیة شرح المنہج للداؤدی رحمہ اللہ - ۱۲ منہ لہ
 حضرت زیادی فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کی کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ
 چاہے کہ اللہ تعالیٰ اسے واپس فرمادے تو بلند جگہ کھڑا ہو کر سورۃ فاتحہ پڑھے

لہ ابن عابدین شامی، علامہ، رد المحتار در احیاء التراث العربی، بیروت، ج ۳، ص ۳۲۴

اور اس کا ثواب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر سیدی احمد بن علوان کی خدمت میں پیش کرے اور کہے سیدی احمد! اے ابن علوان! اگر آپ نے میری گم شدہ چیز واپس نہ کی، تو میں آپ کا نام دفترِ اولیاء سے حنا سرج کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے وہ چیز واپس فرمادے گا۔ یہ علامہ اجہوری کا کلام مع اضافہ ہے جیسے کہ داؤدی نے شرح منہج میں نقل فرمایا۔“

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدی زروق رحمہ اللہ تعالیٰ محشی بخاری کا تذکرہ بڑے شاندار انداز میں کیا ہے، فرماتے ہیں،
بالجملہ مردے جلیل القدر است کہ مرتبہ اذ فون الذکر است و اواخر
محققان صوفیہ است کہ بین الحقیقۃ و الشریعۃ جامع بودہ اند و بشاگردی
او اجلہ علماء مفتخر و مبایہ بودہ اند مثل شہاب الدین القسطلانی و
شمس الدین لقانی۔

و اور قصیدہ ایست بہ طور قصیدہ جیلانیہ کہ بعض ابیات او اینست
انا لمویدی جامع لشتاتہ اذا ما سطا جور الزماں بنکبۃ
وان کنت فی ضیق و کرب و وحشتہ فنا و بیا ذوق ات بسرعتہ
مختصر یہ کہ وہ عظیم الشان شخصیت ہیں جن کا مرتبہ بیان نہیں کیا جاسکتا، وہ
محققین صوفیہ کے آخری بزرگ ہیں جنہوں نے حقیقت و شریعت کو جمع کیا۔
بڑے بڑے علماء مثلاً شہاب الدین قسطلانی اور شمس الدین لقانی نے
ان کی شاگردی پختہ کیا۔

قصیدہ غوثیہ کے طریقے پر ان کا قصیدہ ہے جس کے چند شعر یہ ہیں:

لے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی | بستان المحدثین فارسی / اردو / انگریزی / ایم سعید کمپنی کراچی، ص ۲۴۲

● میں اپنے مرید کے بھرے ہوئے حالات کو جمع کرنے والا ہوں، جب زمانے کی تندی اس پر کوئی مصیبت ڈھاوے۔

● اگر تو تنگی، تکلیف اور وحشت میں ہے، تو یا زرق پکار میں فوراً آجاؤں گا۔

اگر ان اشعار کو مشرکانہ قرار دیا جائے، تو شاہ عبدالعزیز اور ان کی سند سے وابستہ لوگوں کو کیا حکم ہوگا؟ جو یہ اشعار دھوم دھڑلے سے نقل کر رہے ہیں۔

صاحب دُر مختار کے استاذ علامہ خیر الدین رملی ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:

واما قولهم يا شيخ عبد القادر فهو نداء و اذا اضيف اليه شيئي اكرام الله فما الموجب لحرمة (الى ان قال) ووجه التكفير بانه طلب شيئي لله وهو جل وعلا غنى عن كل شيئي والكل محتاج اليه وهذا لا يحتاج في خاطر احد فان ذكره تعالى للتعظيم كما في قوله تعالى فان لله خمسة ومثله كثير لامة المسلمين كايا شيخ عبدالقادر كهنا ندا ہے اور جب اس کے ساتھ شيئا لله کا اضافہ کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم و رضا کے لیے کسی شے کا مطالبہ ہے اس کے حرام ہونے کی کیا وجہ ہے؛ اس کے کفر قرار دینے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی شے کا مطالبہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر شے سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں اور یہ مطلب کسی کے تصور میں بھی نہیں آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر تعظیم کے لیے ہے جیسے ارشادِ ربانی ہے، فان لله خمسة (الآية) اس کی مثالیں بہت ہیں۔

۱۔ خیر الدین رملی، علامہ، فتاویٰ خیر، بر حاشیہ فتاویٰ حامدیہ (حاجی عبدالغفار قندھار) ج ۲، ص ۲۸۲

صلوٰۃ غوثیہ

شہبازِ لامکانی، محبوب سبحانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ولی اور سرتاج اولیاء ہیں، ان کے وسیلے سے دُعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم نہیں رہتا۔

سیدنا غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،

من استغاث بی فی کربۃ کشفَتْ عنہ ومن نادانی
باسمی فی شدۃ فرجت عنہ ومن توسل بی الحی اللہ
عز وجل فی حاجۃ قضیت لہ ومن صلیٰ رکعتین یقرأ
فی کل رکعۃ بعد الفاتحۃ سورۃ الاخلاص احدى
عشرۃ مرۃ ثم یصلیٰ علی رسول اللہ بعد السلام
ویسلم علیہ ویذکر فی ثم یخطو الی جہۃ العراق احدى
عشرۃ خطوۃ ویذکر اسمی ویذکر حاجتہ فانہا
تقضى باذن اللہ - لہ

”جو شخص کسی تکلیف میں میرے وسیلے سے امداد کی درخواست کرے، اس کی وہ تکلیف دُور کی جائے گی اور جو کسی مصیبت میں میرا نام پکارے، وہ مصیبت دُور کر دی جائے گی اور جو کسی حاجت میں میرا وسیلہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے، اس کی حاجت پوری کر دی جائے گی۔ اور جو شخص دو رکعتیں ادا کرے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد گیارہ

لہ ابوالحسن علی بن یوسف النخعی الشطنوفی، بہجتہ الاسرار لمصطفیٰ البابی الحلبی، مصر، ص ۱۰۲

مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، سلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، پھر عراق کی جانب گیارہ قدم چلے، میرا نام لے اور اپنی حاجت بیان کرے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس کی حاجت پوری کر دی جائے گی۔
اس کے بعد یہ شعر پڑھے:

أَيُّدِرِكُنِي ضِيمٌ وَأَنْتَ ذَخِيرَتِي وَأُظْلَمُ فِي الدُّنْيَا وَأَنْتَ نَصِيرَتِي
وَعَارِ عَلِيٍّ حَامِيٍّ الْحَمِيٍّ هُوَ مُنَجِّدِي إِذَا ضَلَّ فِي الْبَيْدِ اعْقَالَ بَعِيرِي لِي

● "کیا مجھ پر ظلم کیا جائے گا جبکہ آپ میرا ذخیرہ ہیں اور کیا دنیا میں مجھ پر ستم کیا جائے گا، جبکہ آپ میرے مددگار ہیں۔"

● حضور غوث پاک کے پشت پناہ ہوتے ہوئے اگر جنگل میں میرے اُونٹ کی رسی گم ہو جائے تو یہ بات محافظ کے لیے باعثِ عار ہے۔"

غور کیا جائے تو صلوة غوثیہ میں شرک کا کوئی پہلو نہیں نکلتا، کیونکہ اس سے پہلے گزر چکا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو حکم فرمایا کہ دو رکعت نماز پڑھ کر میرے ویسے سے بارگاہِ الہی میں دُعا مانگو۔ انہوں نے دُعا مانگی، تو ان کی بینائی بحال ہو گئی۔
حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمانے پر ایک صاحب نے دو عثمانی میں یہی عمل کیا، تو ان کا مقصد پورا ہو گیا، وہی طریقہ اس جگہ ہے کہ دو رکعت پڑھ کر ستینا حضور غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توسل کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاجت برآتی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ صلوة غوثیہ کا طریقہ خود سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے جسے علامہ علی بن یوسف اللخمی الشطنونی پھر علامہ محمد بن یحییٰ التازنی الحلبی

لے محمد بن یحییٰ التازنی الحلبی، علامہ: قلائد الجواهر (مصطفیٰ البانی الحلبی، مصر) ص ۳۶

۹۶۳ھ) پھر حضرت ملا علی قاری اور شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے روایت کیا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ معاذ اللہ! حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرک کی تعلیم دی ہے تو اس کی مرضی! لیکن جہاں تک روایت کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اسے جھوٹ قرار دینا بھی محض سینہ زوری ہے۔

امام احمد رضا بریلوی، حضرت علامہ شطنونی کے بارے میں فرماتے ہیں:

”یہ امام ابوالحسن نور الدین علی مصنف بہجتہ الاسرار شریف اعظم علماء و ائمہ قرابت و اکابر اولیاء و سادات طریقت سے ہیں۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک صرف دو واسطے رکھتے ہیں۔ امام اجل حضرت ابوصالح نصر قدس سرہ سے فیض حاصل کیا۔ انہوں نے اپنے والد ماجد حضرت ابوبکر تاج الدین عبدالرزاق نور اللہ مرقدہ سے انہوں نے اپنے والد ماجد حضور پرنور سید السادات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔“

شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زبدۃ الآثار شریف میں فرماتے ہیں یہ کتاب بہجتہ الاسرار کتاب عظیم و شریف و مشہور ہے اور اس کے مصنف علمائے قرابت سے عالم معروف و مشہور اور ان کے احوال شریفہ کتابوں میں مذکور و مسطورہ امام شمس الدین ذہبی کہ علم حدیث و اسماء الرجال میں جن کی جلالت شان عالم آشکار اس جناب کی مجلس درس میں حاضر ہوئے اور اپنی کتاب طبقات المفسرین میں ان کے مدائح لکھے۔ امام محدث محمد بن محمد بن محمد بن جزری مصنف حصین اس جناب کے سلسلہ تلامذہ میں سے ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب مستطاب بہجتہ الاسرار شریف اپنے شیخ سے پڑھی اور اس کی سند و اجازت حاصل کی۔“ ۱۵

۱۔ علی بن سلطان محمد القاری، علامہ؛ نزہۃ الخاطر الفاتر، اردو ترجمہ (سنی دارالاشاعت فیصل آباد) ص ۷۹
 ۲۔ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محقق، زبدۃ الاسرار (مطبع بکسلنگ کینی، بمبئی) ص ۱۰۱
 ۳۔ احمد رضا بریلوی، امام، انوار الانتباہ (مکتبہ نوریہ رضویہ، گوجرانوالہ) ص ۱۵

علامہ انور شاہ کشمیری (دیوبندی) کہتے ہیں،

هكذا نقل الشطنوني ووثقه المحدثون۔ لہ

یہی طرح شطنونی نے نقل کیا ہے اور محدثین نے ان کی توثیق کی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے مقبول اور محبوب بندوں کو وسیلہ بنانے اور ان سے استعانت کا یہ وہ عقیدہ ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ سے آج تک جمہور امت اور ائمہ اسلام کے نزدیک مقبول اور معمول چلا آیا ہے۔ یہی عقیدہ امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کا ہے۔ انہوں نے اپنی تصانیف میں دنیا سے اسلام کے مسلم اور مستند علماء کے ارشادات اور قرآن و حدیث کے حوالے سے اپنے معتقدات کو پیش کیا ہے۔

مخالفین یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ بریلویوں کے خصوصی عقائد میں سے ہے اور اسی آڑ میں وہ اپنے تمام فتوے جاری کر دیتے ہیں۔ انتہا پسندی اور فرقہ وارانہ ذہنیت کا یہ عالم ہے کہ شدید سے شدید زبان استعمال کرنے کے باوجود ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا۔

مثلاً کہا جاتا ہے،

”بریلویوں کے امتیازی عقائد وہی ہیں جو دین کے نام پر بت پرستوں، عیسائیوں، یہودیوں اور مشرکوں سے مسلمانوں کی طرف منتقل ہوئے ہیں۔ ائمہ اسلام اور ملتِ صلیبیہ کے مجددین نے ان عقائد کے خلاف جہاد کیا، ان میں سے کچھ دورِ جاہلیت میں موجود تھے، ان کے خلاف قرآن اور عامل و سترآن نے جہاد کیا۔“

وہ عقائد کیا تھے؟ غیر اللہ سے استعانت وغیرہ (مخلصانہ)

اب آپ ہی انصاف کریں کہ سلف صالحین کا تسلسل حق پر ہے یا یہ مخصوص فرقہ؟

فیض الباری (مطبوعہ مجازی، قاہرہ) ج ۱، ص ۶۱

البریلویہ، ص ۵۵

لہ انور شاہ کشمیری،

لہ احسان الہی ظہیر،

انوار الانبياء

في عهد نداء يا رسول الله ﷺ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

استفتاء

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ زید موجد مسلمان ہو خدا کو خدا اور رسول کو رسول جانتا ہے، نماز کے بعد اور دیگر اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بکلمہ یا نداء کرتا اور الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا اسْتَلْتُكَ الشَّفَاعَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ کہا کرتا ہے، یہ کہنا جائز ہے یا نہیں؟ اور جو لوگ اسے اس کلمہ کی وجہ سے کافر و مشرک کہیں ان کا کیا حکم ہے؟ بَيْنَا بِالْكِتَابِ وَوَجَدُوا يَوْمَ الْحِسَابِ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى حَبِيبِ الْمُصْطَفَى
وَالِإِصْحَابِهِ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالصَّفَا

الجواب

کلمات مذکورہ بے شک جائز ہیں جن کے جواز میں کلام نہ کرے گا مگر سفیہ جاہل یا ضال مُضِلٌّ، جسے اس مسئلہ کے متعلق قدرے تفصیل دیکھنی ہو شفاء السقام، امام علام بقیۃ المجتہدین الکرام تقی الملہ والدین ابوالحسن علی سبکی ومواہب لدنیۃ امام احمد قسطلانی شارح صحیح بخاری وشرح مواہب علامہ زرقانی ومطالع المسرات علامہ فاسی ومرقاۃ شرح مشکوٰۃ، علامہ علی قاری ولمعات وایشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ وجذب القلوب الی دیار المحبوب ومدارج النبوة، تصانیف شیخ عبدالحق محدث دہلوی وافضل القرعے

شرح اتم القرنی امام ابن حجر مکی وغیرہ کتب و کلام علمائے کرام و فضلاء عظام علیہم رحمۃ الرحمن
العلام کی طرف رجوع لائے یا فقیر کا رسالہ الْأَصْلَالُ لِقَبْضِ الْأَوْلِيَاءِ بَعْدَ الْوَصَالِ مطالعہ کریں

یہاں فقیر بقدر ضرورت چند کلمات اجمالی لکھتا ہے۔ حدیث صحیح ذیل اطران
گراں بہائے تصحیح جسے امام نسائی و امام ترمذی و ابن ماجہ و حاکم و بیہقی و امام الاممہ ابن خزمیہ
امام ابوالقاسم طبرانی نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا
اور ترمذی نے حسن غریب صحیح اور طبرانی و بیہقی نے صحیح اور حاکم نے بشرط بخاری و مسلم
صحیح کہا اور امام عبد العظیم منذری وغیرہ ائمہ نقد و تنقیح نے ان کی تصحیح کو مسلم و مقرر رکھا
جس میں حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نابیتا کو دعا بتعلیم
فرمائی کہ بعد نماز یوں کہے :-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ
نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي
حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى لِي اللَّهُمَّ فَشَفِّعْ فِيَّ لَ

” الہی! میں تجھ سے مانگتا اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں بوسیلہ تیرے
نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہ مہربانی کے نبی ہیں، یا رسول اللہ! میں
حضور کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اس حاجت میں توجہ کرتا ہوں کہ
میری حاجت روا ہو، الہی ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔“

۱۹۷	۲۶	ص ۱۹۷	مطبع امین کمپنی اردو بازار دہلی	ترذی شریف	ابو ہیسے ترمذی
۲۲۱	۱۶	ص ۲۲۱	احیاء التراث العربی	ابن ماجہ شریف	محمد بن زید قزوینی
۵۱۹	۱۶	ص ۵۱۹	دار الفکر بیروت	مستدرک	امام حاکم
۲۲۶	۲۶	ص ۲۲۶		صحیح ابن خزمیہ	ابوبکر محمد بن اسحق

امام طبرانی کی مجموعہ میں یوں ہے :-

إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى عُمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْهُ فِي حَاجَتِهِ لَمْ يَكُنْ عُمَانُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَلَا يَنْظُرُ فِي
حَاجَتِهِ فَلَقِيَ عُمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَسَأَلَهُ
ذَلِكَ الْيَهُودِيُّ فَقَالَ لَهُ عُمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
إِنَّتِ الْمَيْضَاءُ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ
ثُمَّ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا نَبِيِّ الرَّحْمَةِ
يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فَيَقْضِي حَاجَتِي وَتَذَكُرُ
حَاجَتَكَ وَرُوحِي إِلَى حَتَّى أَرْوِحَ مَعَكَ.

فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَصَنَعَ مَا قَالَ لَهُ ثُمَّ أَتَى بَابَ عُمَانَ رَضِيَ
اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَجَاءَ الْبُيُوتَ حَتَّى أَخَذَهُ بِيَدِهِ فَأَدْخَلَهُ عَلَى
عُمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَاجْلَسَ مَعَهُ عَلَى
الطَّنْفَسَةِ وَقَالَ حَاجَتَكَ فَذَكَرَ حَاجَتَهُ فَقَضَاهَا ثُمَّ قَالَ
مَا ذَكَرْتَ حَاجَتَكَ حَتَّى كَانَتْ هَذِهِ السَّاعَةُ وَقَالَ مَا كَانَ
لَكَ مِنْ حَاجَةٍ فَأَتَيْنَا شُرَّانَ الرَّجُلِ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَ
عُمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ لَهُ حِزَاكَ اللَّهُ
خَيْرًا مَا كَانَ يَنْظُرُ فِي حَاجَتِي وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيَّ حَتَّى كَلِمَتِي فِي
فَقَالَ عُمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللَّهِ مَا كَلِمَتِي
وَلَكِنْ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ
رَجُلٌ حَسْبُكَ الْيَهُودِيُّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّتِ الْمَيْضَاءُ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ

أَدْعُرِيهِذِهِ الدَّعَوَاتِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَنْظَلَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْ قَوْلِهِ مَا تَفْتَنُنَا وَطَالَ بِنَا الْحَدِيثَ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْنَا
الرَّجُلُ كَأَنَّ لَوْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ

یعنی ایک حاجت مند اپنی حاجت کے لئے امیر المؤمنین عثمان غنی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آتا جاتا، امیر المؤمنین نہ اس کی طرف التفات
کرتے نہ اس کی حاجت پر نظر فرماتے، اس نے عثمان بن حنیف رضی اللہ
تعالیٰ عنہ سے اس امر کی شکایت کی، انہوں نے فرمایا وضو کر کے مسجد
میں دو رکعت نماز پڑھ پھر دعا مانگ! الہی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور
تیری طرف اپنے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے توجہ
کرتا ہوں، یا رسول اللہ! میں حضور کے توکل سے اپنے رب کی طرف
متوجہ ہوتا ہوں کہ میری حاجت روا فرمائے اور اپنی حاجت ذکر کر پھر
شام کو میرے پاس آنا کہ میں بھی تیرے ساتھ چلوں۔

حاجت مند نے (کہ وہ بھی صحابی یا لا اقل کبار تابعین سے
بھتے) یوہیں کیا، پھر آستانِ خلافت پر حاضر ہوتے، دربان آیا اور ہاتھ
پکڑ کر امیر المؤمنین کے حضور لے گیا، امیر المؤمنین نے اپنے ساتھ مند
پر بیٹھا لیا، مطلب پوچھا، عرض کیا، فوراً روا فرمایا اور ارشاد کیا اتنے
دنوں میں اس وقت تم نے اپنا مطلب بیان کیا، پھر فرمایا جو حاجت
تمہیں پیش آیا کرے ہمارے پاس چلے آیا کرو۔

یہ صاحب وہاں سے نکل کر عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ملے اور کہا اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے۔ امیر المؤمنین میری حاجت پر نظر اور میری طرف توجہ فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ نے ان سے میری سفارش کی، عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم! میں نے تو تمہارے معاملہ میں امیر المؤمنین سے کچھ بھی نہ کہا مگر ہوا یہ کہ میں نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور کی خدمتِ اقدس میں ایک نابینا حاضر ہوا اور نابینائی کی شکایت کی، حضور نے یونہی اس سے ارشاد فرمایا کہ وضو کر کے دو رکعت پڑھے پھر یہ دعا کرے، خدا کی قسم ہم اٹھنے بھی نہ پاتے تھے، باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ ہمارے پاس آیا گویا کبھی اندھانہ تھا۔“

امام طبرانی پھر امام منذری فرماتے ہیں والحديث صحيح، امام بخاری کتاب الادب المفرد میں اور امام ابن السنی و امام ابن بشکوال روایت کرتے ہیں :-
 ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهم اخذت رجلاً فقيل
 له اذكر احب الناس اليك فصاح يا محمداه فانتشرت
 يعني حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پاؤں سو گیا، کسی نے
 کہا انہیں یاد کیجئے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، حضرت نے
 باوا زبلند کہا یا محمداه! فوراً پاؤں کھل گیا۔“

امام نووی شارح صحیح مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الاذکار میں اس کا مثل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس

ابن محمد بن اسماعیل بخاری، کتاب الادب المفرد مطبوعہ مکتبہ ص ۲۵۰

ولفظ البخاری مثلاً اخذت رجل ابن عمر فقال لرجل اذكر احب الناس اليك فقال يا محمداه ۱۲۵ منہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس کسی آدمی کا پاؤں سو گیا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا تو اس شخص کو یاد کر جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے تو اس نے یا محمدؐ کہا، اچھا ہو گیا اور یہ امر ان دو صحابیوں کے سوا اوروں سے بھی مروی ہو اس اہل مدینہ میں قدیم سے اس یا محمدؐ کہنے کی عادت چلی آتی ہے۔

علامہ شہاب خفاجی مصری نسیم الرياض شرح سفارہ امام قاضی عیاض میں فرماتے ہیں :-

هَذَا مِمَّا تَعَاهَدَهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ

حضرت بلال بن اہکارت مکرئی سے قحط عام الرمادہ میں کہ بعد خلافت فاروقی ۱۸ھ میں واقع ہوا، ان کی قوم بنی مزینہ نے درخواست کی کہ ہم مرے جاتے ہیں، کوئی بکری ذبح کیجئے، فرمایا بکریوں میں کچھ نہیں رہا ہے۔ انہوں نے اصرار کیا، آخر ذبح کی کھال کھینچی تو نرزی سرخ بڑی نکلی، یہ دیکھ کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ندا کی یا محمدؐ! پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر بشارت دی ذکرة فی الکلیل ۷

امام مجتہد فقہیہ اجل عبد الرحمن ہذلی کوئی مسعودی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور اجلہ تبع تابعین و اکابر ائمہ مجتہدین سے ہیں، تکر بلند ٹوپی رکھتے جس میں لکھا تھا محمد یا منصور! اور ظاہر ہے کہ الْقَلَمُ أَحَدُ اللِّسَانِ

۱۳۵ ص ۱۳۵ : کتاب الاذکار مطبع مکتبہ دارالتعاون، مکہ

۳۵۵ ص ۳۶ : نسیم الرياض دارالفکر، بیروت

۵۵۶ ص ۲۴ : تاریخ کامل دارالصادر، بیروت

عہ (ترجمہ) یا محمدؐ کہنا اہل مدینہ کا معمول تھا۔ عہ تم دونوں میں سے ایک ہے۔

ہشیم بن جمیل النطاکی کہ ثقات علمائے محدثین سے ہیں، انہیں امام اجل کی نسبت فرماتے ہیں:

رَأَيْتُ وَعَلَى رَأْسِهِ قَلَنْسُوَةٌ أَطْوَلُ مِنْ ذِرَاعٍ مَكْتُوبٌ

فِيهَا مُحَمَّدٌ يَا مَنْصُورٌ ذَكَرَهُ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ سَيِّرُهُ عَلَيْهِ

امام شیخ الاسلام شہاب علی انصاری کے فتاویٰ میں ہے :-

سُئِلَ عَمَّا يَقَعُ مِنَ الْعَامَّةِ مِنْ قَوْلِهِمْ عِنْدَ الشَّدَاثَةِ

يَا شَيْخَ فُلَانٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْإِسْتِغَاثَةِ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

وَالصَّالِحِينَ وَهَلْ لِلْمَشَاخِرِ إِغَاثَةٌ بَعْدَ مَوْتِهِمْ أَمْ لَا فَجَابَ

بِمَانِئِهِ أَنَّ الْإِسْتِغَاثَةَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ

وَالْعُلَمَاءِ الصَّالِحِينَ جَائِزَةٌ وَلِلْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَالْأَوْلِيَاءِ

وَالصَّالِحِينَ إِغَاثَةٌ بَعْدَ مَوْتِهِمْ عَلَيْهِ

یعنی ان سے استفادہ ہوا کہ عام لوگ جو سختیوں کے وقت انبیاء و مرسلین و

اولیاء و صالحین سے فریاد کرتے اور یا رسول اللہ، یا علی، یا شیخ عبد القادر جیلانی

اور ان کے مثل کلمات کہتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں اور اولیاء بعد انتقال

کے بھی مدد فرماتے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بے شک انبیاء و

مرسلین و اولیاء و علماء سے مدد مانگنی جائز ہے اور وہ بعد انتقال بھی امداد

فرماتے ہیں۔“

علامہ خیر الدین رطبی استاد صاحب در مختار فتاویٰ خیر یہ میں فرماتے ہیں :-

قَوْلُهُمْ يَا شَيْخَ عَبْدِ الْقَادِرِ سِدَاءٌ فَمَا الْمَوْجِبُ

۱۰۷ ابو العباس محمد بن احمد : میزان الاعتدال دار العرفۃ للطباعة، بیروت ۲۷ ص ۵۷۲

عہ (ترجمہ) میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنے سر پر ہاتھ بھر لپی ٹوپی رکھتے تھے جس میں لکھا تھا ”محمد یا منصور“

عہ شیخ حسن المدوی بحر اوی : مشرق الانوار (المکتبۃ اشرفیہ، مصر) ص ۵۹

لِحُرْمَتِهِ

”لوگوں کا کہنا کہ یا شیخ عبدالقادر یہ ایک نذاریہ ہے، پھر اس کی حرمت کا سبب کیا ہے؟“

سیدی جمال بن عبداللہ بن عمر مکی اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں :-
 سَأَلْتُ عَمَّنْ يَقُولُ فِي حَالِ الشَّدَائِدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ
 يَا عَلِيًّا أَوْ يَا شَيْخَ عَبْدِ الْقَادِرِ مَثَلًا هَلْ هُوَ جَائِزٌ شَرْعًا
 أَمْ لَا؟ أَجَبْتُ نَعْمَ الْأَسْتِغَاثَةُ بِالْأَوْلِيَاءِ وَبِنِدَائِهِمْ وَ
 التَّوَسُّلُ بِهِمْ مُرْتَبِعٌ وَشَيْءٌ مِّنْ عَوْبٍ لَا يُنْكِرُهُ إِلَّا
 مَكَابِرٌ أَوْ مُعَانِدٌ وَتَدْحِيمٌ بِرَكَّةِ الْأَوْلِيَاءِ الْكِرَامِ الخ

یعنی ”مجھ سے سوال ہوا اس شخص کے بارے میں جو مصیبت کے وقت میں کہتا ہے یا رسول اللہ یا علی یا شیخ عبدالقادر مثلاً، آیا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ میں نے جواب دیا ہاں، اولیاء سے مدد مانگنی اور انہیں پکارنا اور ان کے ساتھ توسل کرنا شرع میں جائز اور پسندیدہ چیز ہے جس کا انکار نہ کرے گا گریہ و دھرم یا صاحبِ عناد اور بے شک وہ اولیاءِ کرام کی برکت سے محروم ہے۔“

امام ابن جوزی نے کتاب عیون الحکایات میں تین اولیاءِ عظام کا عظیم الشان واقعہ بسندِ مسلسل روایت کیا کہ وہ تین بھائی سوارانِ دلاور ساکنانِ شام تھے کہ ہمیشہ راہِ خدا میں بہاد کرتے :-

فَأَسْرَهُ الرُّومَ مَرَّةً فَقَالَ لَهُمُ الْمَلِكُ إِنِّي أَجْعَلُ فِيكُمْ

الْمَلِكِ وَأَزْوِجِكُمْ بَنَاتِي وَتَدْخُلُونَ فِي النَّصْرَانِيَّةِ فَأَبَوْا
قَالُوا يَا مُحَمَّدًا-

یعنی "ایک بار نصارائے روم انہیں قید کر کے لے گئے، بادشاہ نے
کہا میں تمہیں سلطنت دوں گا اور اپنی بیٹیاں تمہیں بیاہ دوں گا، تم نصرانی
ہو جاؤ، انہوں نے نہ مانا اور نذار کی یا محمدہ۔"

بادشاہ نے دگیوں میں تیل گرم کر کر دو صاحبوں کو اُس میں ڈال دیا، تیسرے
کو اللہ تعالیٰ نے ایک سبب پیدا کر بچا لیا، وہ دونوں چھ مہینے کے بعد مع ایک جماعت
ملائکہ کے بیداری میں اُن کے پاس آئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری شادی
میں شریک ہونے کو بھیجا ہے، انہوں نے حال پوچھا، فرمایا :

مَا كَانَتْ إِلَّا الْغَطْسَةَ الَّتِي رَأَيْتَ حَتَّى خَرَجْنَا فِي

الْفِدْوَسِ-

"بس وہی تیل کا ایک غوطہ تھا جو تم نے دیکھا، اس کے بعد ہم جنت
اعلیٰ میں تھے۔"

اہم فرماتے ہیں :-

كَانُوا مَشْهُورِينَ بِذَلِكَ مَعْدُوفِينَ بِالسَّامِ فِي النَّهْمِ الْأَوَّلِ

"یہ حضرات زمانہ سلف میں مشہور تھے اور اُن کا یہ واقعہ معروف "

پھر فرمایا شعراء نے ان کی منقبت میں قصیدے لکھے، از انجملہ یہ بیت ہے :-

سَيُعْطَى الصَّادِقِينَ بِفَضْلِ صِدْقِ

نِجَاةً فِي الْحَيَاةِ وَفِي الْمَمَاتِ

” قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سچے ایمان والوں کو ان کے سچ کی برکت سے حیات و موت میں نجات بخٹے گا۔“

یہ واقعہ عجیب، نفیس و روح پرور ہے، میں بجیالِ تطویل اسے مختصر کر گیا، تمام و کمال امام جلال الدین سیوطی کی شرح الصدور میں ہے مَنْ شَاءَ فَلْيَجْعَلِ الْمَيِّتَ، یہاں مقصود اس قدر ہے کہ مصیبت میں یا رسول اللہ! کہنا اگر شرک ہے تو مشرک کی مغفرت و شہادت کیسی اور جنت الفردوس میں جگہ پائی، کیا معنی اور ان کی شادی میں فرشتوں کو بھیجا کیونکر معقول؟ اور ان ائمہ دین نے یہ روایت کیونکر مقبول اور ان کی شہادت و ولایت کو صحیح سے تسلیم رکھی اور وہ مردانِ خدا خود بھی سلفِ صالح میں تھے کہ واقعہ شہرِ طرسوس کی آبادی سے پہلے کا ہے کما ذکرتہ فی الروایۃ خفیہا اور طرسوس ایک نجر ہے یعنی دارالاسلام کی سرحد کا شہر جسے خلیفہ ہارون رشید نے آباد کیا کما ذکرتہ الامام السیوطی فی تاریخ الخلفاء

ہارون رشید کا زمانہ زمانہ تابعین و تبع تابعین تھا تو یہ تینوں شہدائے کرام اگر تابعی نہ تھے لا اقل تبع تابعین سے تھے وَاللّٰهُ الْهَادِی۔

حضرت پر نور سیدنا غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں:-
 مَنْ اسْتَفَاتَ بِي فِي كُرْبَةٍ كَشِفْتُ عَنْهُ وَمَنْ نَادَى بِاسْمِي فِي شِدَّةٍ فُرِجَتْ عَنْهُ وَمَنْ تَوَسَّلَ بِي إِلَى اللَّهِ عَذَّ وَجَلَّ فِي حَاجَةٍ قُضِيَتْ لَهُ وَمَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ سُورَةَ الْاِخْلَاصِ اِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ يَصَلِّي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ السَّلَامِ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَيَذْكُرُنِي ثُمَّ يَخْطُو إِلَى جِهَةِ الْعِرَاقِ اِحْدَى عَشْرَةَ خُطْوَةً يَذْكُرُ

سہ علامہ سیوطی فرماتے ہیں طرسوس کی تعمیر جو سلم نے کی۔ شرح الصدور، عربی، ص ۸۹، قادی

يُنَاسِي وَيَذْكُرُ حَلَجَتْ فَإِنَّهَا تَقْضِي بِإِذْنِ اللَّهِ

یعنی جو کسی تکلیف میں مجھ سے فریاد کرے وہ تکلیف دفع ہو اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر نثار کرے وہ سختی دور ہو اور جو کسی حاجت میں اللہ تعالیٰ کی طرف مجھ سے توسل کرے وہ حاجت برائے اور جو دو رکعت نماز ادا کرے، ہر رکعت میں بعد فاتحہ کے سوۃ اخلاص گیارہ بار پڑھے، پھر سلام پھیر کر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور مجھے یاد کرے، پھر عسراق شریف کی طرف گیارہ قدم چلے، ان میں میرا نام لیتا جائے اور اپنی حاجت یاد کرے، اُس کی وہ حاجت روا ہو اللہ کے اذن سے“

اکابر علمائے کرام و اولیائے عظام مثل امام ابوالحسن نورالدین علی بن جریر لہ مشطوبی و امام عبداللہ بن اسعد یافعی مکی، مولانا علی قاری مکی صاحبِ مرقاة شرح مشکوٰۃ و مولانا ابوالمعالی محمد مسلمی قادری و شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی وغیر ہم رحمۃ اللہ علیہم اپنی تصانیف جلیہ بجز الاسرار و خلاصۃ المفاز و نزمیۃ الخاطر و تحفۃ قادریہ و زبدۃ الآثار وغیرہا میں یہ کلمات رحمت آیات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل و روایت فرماتے ہیں یہ امام ابوالحسن نورالدین علی مصنف بجز الاسرار شریف، اعظم علماء و ائمہ قرأت و اکابر اولیاء و ساداتِ طریقت سے ہیں، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک صرف دو واسطے رکھتے ہیں، امام اجل حضرت ابوصالح نصر قدس سرہ سے فیض حاصل کیا، انہوں نے اپنے والد البیاد حضرت ابوبکر تاج الدین عبدالرزاق نور اللہ قدس سرہ سے انہوں نے اپنے والد ماجد حضور پیر نور سید السادات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زبدۃ الآثار شریف میں فرماتے ہیں۔ یہ کتاب بجز الاسرار کتاب عظیم و شریف و مشہور

سید امام ابوالحسن نورالدین علی : بجز الاسرار مطبوعہ مکتبہ مصطفیٰ البابی مصر ص ۱۰۲

ہے اور اُس کے مصنف علمائے قرارت سے عالم معروف و مشہور اور ان کے احوال شریفہ
کتابوں میں مذکور و مسطور ہے

امام شمس الدین ذہبی کہ علم حدیث و اسما الرجال میں جن کی جلالت شان عالم اشکار
اُس جناب کی مجلس درس میں حاضر ہوئے اور اپنی کتاب طبقات المقرنین میں ان کے مدائح
لکھے۔

امام محدث محمد بن محمد بن محمد بن ابجزری مصنف حصین حصین اُس جناب کے
سلسلہ تلامذہ میں ہیں، انہوں نے یہ کتاب تطاب بھجۃ الاسرار شریف اپنے شیخ سے
پڑھی اور اُس کی سند و اجازت حاصل کی ہے

ان سب باتوں کی تفصیل اور اس نماز مبارک کا دلائل شرعیہ و اقوال افعال
علماء و اولیاء سے ثبوت جلیل فقیر غفر اللہ تعالیٰ لہ کے رسالہ ”انوار الانوار من تم صلوات
الاسرار“ میں ہے فَعَلَيْكَ بِهَا تَجِدُ فِيهَا مَا يَشْفِي الصُّدُودَ وَيَكْتِفِي الْعَمَى
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

امام عارف باللہ سیدی عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ الربانی کتاب تطاب
لواقح الانوار فی طبقت الاخبار میں فرماتے ہیں :-

”سیدی محمد عمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید بازار میں تشریف
لئے جاتے تھے، ان کے جانور کا پاؤں پھسلا، باواز پکارا یا سیدی محمد
یا عمری، اُدھر ابن عمر حاکم سعید کو حکم سلطان حتمق قید کئے لئے جاتے
تھے، ابن عمر نے فقیر کا نذر کرنا سنا، پوچھا یہ سیدی محمد کون ہیں؟ کہا

۱۲ منہ امام جلال الدین سیوطی نے ان جناب کو الامام الاوحد لکھا، یعنی امام کینا بے نظیر ۱۲ منہ

۱۲ منہ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محقق، زبدۃ الآثار، فارسی (بکسنگھینی، بسوی ۱۳۰۲) ص ۲
۱۲ منہ ایضاً، ص ۳

میرے شیخ، کہا میں ذلیل بھی کہتا ہوں یا سیدی محمدتدیا غمیری
 لاَحِظْنِي اے میرے سردار اے محمد غمیری مجھ پر نظر عنایت کرو، ان کا یہ کہنا کہ
 حضرت سیدی محمد غمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور مدد فرمائی کہ بادشاہ
 اور اس کے لشکر یوں کی جان پرین گئی، محبوبانہ ابن عمر کو خلعت دیکر رخصت کیا۔
 اسی میں ہے :

” سیدی شمس الدین محمد حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ خلوت میں وضو
 فرما رہے تھے ناگاہ ایک کھڑاؤں ہوا پر پھینکی کہ غائب ہو گئی حالانکہ حجرے میں
 کوئی راہ اُس کے ہوا پر جانے کی نہ تھی، دوسری کھڑاؤں اپنے خادم کو عطا فرمائی
 کہ اسے اپنے پاس رہنے دے، جب تک وہ پہلی واپس آئے۔ ایک مدت
 کے بعد ملک شام سے ایک شخص وہ کھڑاؤں مع اور ہدایا کے حاضر لایا اور
 عرض کی کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر دے، جب چور میرے سینہ پر مجھے
 ذبح کرنے بیٹھا میں نے اپنے دل میں کہا یا سیدی محمد یا حنفی! اسی وقت
 یہ کھڑاؤں غیب سے آکر اُس کے سینہ پر لگی کہ غش کھا کر اٹا ہو گیا اور مجھے
 بہ برکت حضرت اللہ عزوجل نے نجات بخشی لے
 اسی میں ہے :-

” ولی ممدوح قدس سرہ کی زوجہ مقدسہ بیماری سے قریب مرگ ہوئیں تو وہ یوں
 نذر کرتی تھیں یا سیدی احمد یا بدوی خاٹرک معنی اے میرے سردار اے
 احمد بدوی حضرت کی توجہ میرے ساتھ ہے، ایک دن حضرت سیدی احمد کبیری
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں کب تک مجھے پکارے گی اور مجھ سے

۱۔ عبدالوہاب شعرائی اہم : طبقات الکبریٰ مطبوعہ مکتبہ مصطفیٰ البابی، مصر ۲۷ ص ۹۴

فریاد کرے گی، تو جانتی نہیں کہ تو ایک بڑے صاحبِ تمکین (یعنی اپنے شوہر) کی حمایت میں ہے اور جو کسی ولی کبیر کی درگاہ میں ہوتا ہے ہم اس کی نذر پر اجابت نہیں کرتے، یوں کہ یاسیدی محمد یحسینی؛ کہ یہ کہے گی تو اللہ تعالیٰ تجھے عافیت بخشے گا۔ اُن بی بی نے یونہی کہا، صبح کو خاصی تندرست اُٹھیں، گویا کبھی مرض نہ تھا۔

اسی میں ہے حضرت ممدوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرضِ موت میں فرماتے تھے:-

”مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَلْيَأْتِ إِلَى قَبْرِى وَ يَطْلُبْ حَاجَتَهُ أَقْضِيهَا لَهُ فَإِنَّ مَا بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ غَيْرُ ذَرَاِعٍ مِّنْ تُرَابٍ وَ كُلُّ رَجُلٍ يَحْجِبُ عَنِّ أَصْحَابِ ذَرَاِعٍ مِّنْ تُرَابٍ فَلَيْسَ بِرَجُلٍ“

”جسے کوئی حاجت ہو وہ میری قبر پر حاضر ہو کر حاجت مانگے، میں

روا فرمادوں گا کہ مجھ میں تم میں یہی ہاتھ بھرٹی ہی تو حالت ہے اور جس

مرد کو اتنی مٹی اپنے اصحاب سے حجاب میں کر دے وہ مرد کل ہے کا؟“

اسی طرح حضرت سیدی محمد بن احمد فرغل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال شریفہ میں لکھا:-

كَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ أَنَا مِنَ الْمُتَصَرِّفِينَ فِي قُبُورِهِمْ فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَلْيَأْتِ إِلَى قُبُورِى وَ جِئِى وَ يَذْكُرْهَا لِي أَقْضِيهَا لَهُ

۱۔ عبدالوہاب شمرانی، ام: طبقات الکبریٰ ۲۷ ص ۹۲

۲۔ ایضاً، ص ۹۶

۳۔ ایضاً، ص ۱۰۵

زویا کرتے تھے میں اُن میں ہوں جو اپنی قبور میں تقصّف فرماتے ہیں جسے کوئی حاجت ہو میرے پاس میرے چہرہ مبارک کے سامنے حاضر ہو کر مجھ سے اپنی حاجت کہنے میں رُو افرادوں گا۔“

اسی میں ہے :-

” مروی ہوا ایک بار حضرت سیدی مدین بن احمد اشموٰنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرماتے میں ایک کھڑاؤں بلادِ مشرق کی طرف پھینکی، سال بھر کے بعد ایک شخص حاضر ہوئے اور وہ کھڑاؤں ان کے پاس تھی، انہوں نے حال عرض کیا کہ جنگل میں ایک بدو وضع نے ان کی صاحبزادی پر دست درازی چاہی، لڑکی کو اس وقت اپنے باپ کے پیرو مشد حضرت سیدی مدین کا نام معلوم نہ تھا، یوں نذار کی یاشیحِ آبی لَاحِظُنِی! اے میرے باپ کے پیرو مجھے بچاتیے۔ یہ نذار کرتے ہی وہ کھڑاؤں آئی، لڑکی نے نجات پائی، وہ کھڑاؤں ان کی اولاد میں اب تک موجود ہے لہ

اسی میں سیدی موسیٰ ابو عمران رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لکھتے ہیں :-

كَانَ إِذَا نَادَاهُ مُرِيدُهُ أَحَابُّ مِنْ مَسِيرَةٍ

سَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ

”جب ان کا مرید جہاں کہیں سے انہیں نذار کرتا، جواب دیتے اگرچہ

سال بھر کی راہ پر ہوتا یا اس سے بھی زائد۔“

حضرت شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار شریف میں ذکر

مبارک حضرت سید اجل شیخ بہاؤ الحق والدین ابراہیم و عطاء اللہ الانصاری القادری الشطاری
 اکیسویں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت ممدوح کے رسالہ مبارکہ شطاریہ سے نقل فرماتے ہیں :-
 " ذکر کشف ارواح یا احمد یا محمد! در دو طریق است، یک طریق
 آنست یا احمد را در راست بگوید و یا محمد را در چپ بگوید و در دل ضرب کند
 یا رسول اللہ! طریق دوم آنست کہ یا احمد را در راست بگوید و چپ یا محمد در دل
 دہم کند یا مصطفیٰ۔ دیگر ذکر یا احمد یا محمد یا علی یا حسن یا حسین یا فاطمہ شش طرفی ذکر کند
 کشف جمیع ارواح شود و دیگر اسمائے طہکہ مقرب ہمیں تاثیر دارند یا جبرئیل،
 یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل چہار ضربی، دیگر ذکر اسم شیخ یعنی بگوید یا شیخ
 یا شیخ ہزار بار بگوید کہ حرف نذر را از دل بکشد طرف راست بر دو لفظ شیخ را در دل
 ضرب کند" لہ

حضرت سیّدی نور الدین عبدالرحمن مولانا جامی قدس سرہ السامی نغمات الانس
 شریف میں حضرت مولوی معنوی قدس سرہ العلی کے حالات میں لکھتے ہیں کہ مولانا روح اللہ
 روح نے قریب انتقال ارشاد فرمایا :-
 " ارفتن من غمناک مشوید کہ نور منصور رحمہ اللہ تعالیٰ بعد از صد و پنجاہ
 سال بروح شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ تعالیٰ تجلی کردہ مرشد او شد۔"
 اور فرمایا :-

" در ہر حالتی کہ باشید مرا یاد کنید تا من شمارا مُمد باشم در ہر لباسی کہ

باشم"

اور فرمایا: " در عالم مارا دو تعلق است یکے بہ بدن و یکے بشما و چون بہ عنایت حق سبحانہ

وعلق لے فرد و مجرد شوم و عالم تجرید و تفرید و سہ نماید آل تعلق نیز از آن شما خواہد بود۔
 شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی الطیب النغم فی شرح سید العرب و العجم میں لکھتے ہیں :-

وَصَلَّىٰ عَلَيْكَ اللَّهُ يَا خَيْرَ خَلْقٍ
 وَيَا خَيْرَ مَأْمُولٍ وَيَا خَيْرَ وَاهِبٍ
 وَيَا خَيْرَ مَنْ يُرْجَىٰ لِكَشْفِ رِزِيَّةٍ
 وَمَنْ جُودُهُ قَدَفَاكَ جُودَ السَّحَابِ
 وَأَنْتَ مَجِيئِي مِنْ هُجُومِ مُلِيَّةٍ
 إِذَا انْتَشَبَتْ فِي الْقَلْبِ شَرَّ الْمُخَالِبِ

اور خود اس کی شرح و ترجمہ میں کہتے ہیں :-

" (فصل یازدہم) در ابہتال بجناب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت
 فرستد بر تو خدا تے تعلق اے بہترین خلق خدا! اے بہترین کسیک امید داشتہ
 شود! اے بہترین عطا کنندہ و اے بہترین کسیک امید داشتہ باشد برائے ازالہ
 مصیبتے و اے بہترین کسیک سخاوت او زیادہ است از باران بارہا گواہی میدہم
 کہ تو پناہ دہندہ منی از ہجوم کردن مصیبتے وقتے کہ بخلاند در دل بدترین چنگال ہا و مٹھناتہ
 اسی کے شروع میں لکھتے ہیں :-

" ذکر بعض حوادثِ زماں کہ در اں حوادثِ لا بدست از استمدادِ بروج آنحضرت

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم "۔

اسی کی فصل اول میں لکھتے ہیں :-

" بہ نظر نے آید مرا مگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جاتے دست نزن

۱۔ عبد الرحمن جامی، مولانا : نغمات الانس (اردو) مطبوعہ مدینہ پیشنگ کینی، کراچی ص ۷۰۲
 ۲۔ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ : الطیب النغم (مجتبائی دہلی) ص ۲۲
 ۳۔ ایضاً : ص ۲

اندوگہین ست در ہر شدتے لے

یہی شاہ صاحب مدحیہ حمزہ میں لکھتے ہیں

وَذَلِّقَ اَيْتِهَالٍ وَالتَّجَامِ
نَوَالِكَ اَبْتَنِي يَوْمَ الْقَضَاءِ
فَاَنْتَ الْحِصْنُ مِنْ كُلِّ الْبَلَاءِ
وَفِيكَ مَطَامِعِي وَبِكَ اُرْتَجَانِي

يُنَادِي ضَارِعًا يُخَضُّوعَ قَلْبِ
رَسُولِ اللَّهِ يَا خَيْرَ الْبَرِيَاءِ
اِذَا مَا حَلَّ خَطْبٌ مُدْلِمٌ
اِلَيْكَ تَوَجَّهِي وَبِكَ اسْتِنَادِي

اور خود ہی اس کی شرح و ترجمہ میں لکھتے ہیں :-

” (فصل ششم) در مخاطبہ جناب عالی علیہ فضل الصلوات و اکمل التحیات و

التسلیات نداء کند زار و خوار شدہ شکستگی دل و اطہار بے قدری خود بہ اخلاص

در مناجات و بہ پناہ گرفتن بایں طریق کہ اسے رسول خدا سے بہترین مخلوقات

عطائے سے خواہم روز فیصل کردن، وقتے کہ فرود آید کار عظیم در غایت

تاریکی پس توئی پناہ از ہر بلا بسوئے تست رو آوردن من و بہ تست پناہ گرفتن

من و در تست امید داشتن من اہم ملخصاً لہ

یہی شاہ صاحب اقتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں قضاے حاجت کے لئے ایک

مطبوعہ مجتہائی، دہلی ص ۴

لہ شاہ ولی اللہ محمد دہلوی : اظہار النغم

مطبع مجتہائی ص ۳۲

لہ ایضاً :

۳۲ نوٹ : الانبیاہ دوحوں پر مشتمل ہے، پہلے حصہ میں سلاسل طریقت بیان کئے گئے ہیں اور دوسرے حصہ میں

فقہ و حدیث کی سندیں بیان کی گئی ہیں، دوسرا حصہ مکتبہ سلفیہ، لاہور نے و صاف النبویہ کے نام سے شائع

کیا تھا، ناشر نے مقدمہ میں تصریح کی ہے کہ اس حصہ کا ایک باب نہیں مل سکا اور وہ کچھ ضروری بھی نہ تھا، غالباً

یہ حوالہ اسی ”غیر ضروری“ حصہ میں قلم زد ہو گیا ہے شرف قادری

ختم کی ترکیب یوں نقل کرتے ہیں :-

” اول دو رکعت نفل بعد ازاں یکصد و یازدہ بار و دو بعد ازاں یکصد و یازدہ بار کلمہ تجید و یک صد و یازدہ بار شَیْنًا لِلّٰہِ یَا شَیْخَ عَبْدِ الْقَادِرِ جِلْدَانِی“

اسی انتباہ سے ثابت کہ یہی شاہ صاحب اور ان کے شیخ و استاد حدیث مولانا طاہر مدنی جن کی خدمت میں مدتوں رہ کر شاہ صاحب نے حدیث پڑھی اور ان کے شیخ و استاد و والد مولانا ابراہیم کریمی اور ان کے استاد مولانا احمد قناشی اور ان کے استاد مولانا احمد شاوی اور شاہ صاحب کے استاد مولانا احمد نخعی کہ یہ چاروں حضرات بھی شاہ صاحب کے اکثر سلاسل حدیث میں داخل اور شاہ صاحب کے پیر و مرشد شیخ محمد سعید لاہوری جنہیں انتباہ میں ”شیخ معمر ثقتہ“ کہا اور اعیان مشائخ طریقت سے گنا اور ان کے پیر شیخ محمد اشرف لاہوری اور ان کے شیخ مولانا عبدالملک اور ان کے مرشد شیخ بابر زبیدی اور شیخ شاوی کے پیر حضرت سید صبغۃ اللہ بروجی اور ان دونوں صاحبوں کے پیر و مرشد مولانا وجیہ الدین علوی شارح ہدایہ و شرح وقایہ اور ان کے شیخ حضرت شاہ محمد غوث گویا ری علیہم رحمۃ الملک الباری۔

یہ سب اکابر نادری کی سندیں لیتے اور اپنے تلامذہ و مستفیدین کو اجازتیں دیتے اور یا علی یا علی کا وظیفہ کرتے ولتداحجۃ السامیہ، جسے اس کی تفصیل دیکھنی ہو فقیر کے رسالہ اسرار الانوار و حیاۃ الموت فی بیان سماع الاموات کی طرف رجوع کرے۔

شاہ عبدالعزیز صاحب نے بستان المحدثین میں حضرت ارفع و اعلیٰ امام العلماء نظام الاولیاء حضرت سیدی احمد زروق مغربی قدس سرہ استاد امام شمس الدین لقانی و امام شہاب الدین قسطلانی شارح صحیح بخاری کی مدح عظیم لکھی کہ وہ جناب ابدال سبغہ و محققین صوفیہ سے ہیں شریعت و حقیقت کے جامع باوصف علو باطن ان کی تصانیف علوم ظاہری میں بھی نافع و مفید و بکثرت ہیں

اکابر علماء فخر کرتے تھے کہ ہم ایسے جلیل القدر عالم و عارف کے شاگرد ہیں یہاں تک کہ لکھا۔
 ”بالجملہ مروی جلیل القدر کست کہ مرتبہ کمال اُد فوق الذکر است“

پھر اس جناب جلالت مآب کے کلام پاک سے دو بیتیں نقل کیں کہ فرماتے ہیں

أَنَا الْمُرِيدِي جَامِعٌ لِّشَيْئَاتِهِ إِذَا مَا سَطَا جُودُ الزَّمَانِ بِمَنْكَبَةٍ
 وَإِنْ كُنْتُ فِي ضَيْقٍ وَكَذِبٍ وَوَحْشَةٍ فَنَادِيًا زِدُّوقِ ابْتِيسْرَعِي لَهُ

یعنی میں اپنے مرید کی پریشانیوں میں جمعیت بخشنے والا ہوں جب تم
 زمانہ اپنی نحوست سے اس پر تعدی کرے اور اگر تو تنگی و تکلیف و وحشت میں
 ہو تو یوں نذار کہ یا زدروق! میں فوراً آموجود ہوں گا۔“

علامہ زیاد دی پھر علامہ اجمول سی صاحب تصانیف کثیرہ مشہورہ پھر علامہ داؤدی

محشی شرح منہج پھر علامہ شامی صاحب رد المحتار حاشیہ در مختار گم شدہ چیز طے کرنے فرماتے ہیں
 کہ بلندی پر جا کر حضرت سیّدی احمد بن علوان مبنی قدس سرہ کے لئے فاتحہ پڑھے پھر انہیں ندا کرے
 کہ یا سیّدی احمد یا ابن علوان۔ شامی مشہور و معروف کتاب ہے، فقیر نے اس کے حاشیہ
 کی یہ عبارت اپنے رسالہ حیاة الموات کے ہاشم تکملہ پر ذکر کی۔

غرض یہ صحابہ کرام سے اس وقت تک کے اس قدر ائمہ و اولیاء و علماء ہیں جن کے

اقوال فقیر نے ایک ساعت قلیلہ میں جمع کئے۔ اب مشرک کہنے والوں سے صاف صاف پوچھا،

کہ عثمان بن حنیف، و عبداللہ بن عباس و عبداللہ بن عمر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لیکر
 شاہ ولی اللہ و شاہ عبدالعزیز صاحب اور ان کے اساتذہ و مشائخ تک سب کو کافر و مشرک
 کہتے ہو یا نہیں؟ اگر انکار کریں تو اکھڑ لٹو، بیت پانی اور حق واضح ہو گیا اور بے دھڑک ان سب کو

۱۲۰ علامہ عبدالعزیز رحمہ اللہ؛ بستان المحدثین مطبوعہ سعید کینی، کراچی ص ۳۲۵

۱۲۱ ابن عابدین شامی، علامہ؛ رد المحتار مطبوعہ مطبع دارالکتب العربیۃ الکبریٰ، مصر ج ۲ ص ۲۵۵

کفر و شرک کا فتوے جاری کریں تو ان سے اتنا کہتے کہ اللہ تمہیں ہدایت کرے ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو تو کہے کہا اور کیا کچھ کہا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ اور جان لیجئے کہ جس مذہب کی بنا پر صحابہ سے لے کر اب تک کے اکابر سب معاذ اللہ مشرک و کافر ٹھہریں وہ مذہب خدا و رسول کو کس قدر دشمن ہوگا۔

صحیح حدیثوں میں آیا کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے خود کافر ہے اور بہت ائمہ دین نے مطلقاً اس پر فتوے دیا جس کی تفصیل فقیر نے اپنے رسالہ الْتَهْيُ الْاَلَكِيْدُ عَنِ الصَّلٰوةِ وَاَرَعِدَمِي التَّقْلِيْدِ میں ذکر کی۔ ہم اگرچہ بچکم احتیاط تکفیر نہ کریں تاہم اس قدر میں کلام نہیں کہ ایک گروہ ائمہ کے نزدیک یہ حضرات کہ یا رسول اللہ و یا علی و یا حسین یا غوث الثقلین کہنے والے مسلمانوں کو کافر و مشرک کہتے ہیں خود کافر ہیں تو ان پر لازم کہ تھے ہر سے سے کلمہ اسلام پڑھیں اور اپنی عورتوں سے نکاح جدید کریں۔ در مختار میں ہے مَا فِیْهِ خِلَافٌ يُّؤَمَّرُ بِالْاِسْتِغْفَارِ وَ التَّوْبَةِ وَ تَجْدِيْدِ النِّكَاحِ۔

فائدہ :- حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نذر کرنے کے عمدہ دلائل سے 'التحیات' ہے جسے ہر نمازی ہر نماز کی دو رکعت پڑھتا ہے اور اپنے نبی کریم علیہ افضل الصلوٰۃ و التسلیم سے عرض کرتا ہے السَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَکَاتُہٗ سَلَامٌ حَضْرًا وَ اَسْمًا اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔

اگر نذر معاذ اللہ شرک ہے تو یہ عجب شرک ہے کہ عین نماز میں شرکیت داخل ہے و لا حول و لا قوۃ الا باللہ العلیّ العظیم اور یہ جاہلانہ خیال محض باطل کہ التحیات زمانہ اقدس سے ویسے ہی چلی آتی ہے تو مقصود ان لفظوں کی ادا ہے نہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نذر، حاشا و کلا شریعت مطہرہ نے نماز میں کوئی ذکر ایسا نہیں رکھا ہے جس میں صرف زبان سے لفظ نکالے جائیں اور معنی مراد نہ ہوں، نہیں نہیں بلکہ قطعاً یہی درکار ہے کہ التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ سُنَّهٗ الرَّسُوْلِ كَقَوْلِهِ سَلَامٌ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ

وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سے یہ ارادہ کرے کہ اس وقت میں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کرتا اور حضور سے بالقصد عرض کر رہا ہوں کہ سلام حضور پر اپنے نبی اور اللہ کی رحمت اور اسکی برکتیں فتاویٰ عالمگیری میں شرح قدوری سے ہے۔

لَا بُدَّ أَنْ يَقْضَىٰ بِالْفَاطِظِ التَّشَهُدِ مَعَانِيهَا الَّتِي وَضَعَتْ
لَهَا مِنْ عِنْدِهِ كَانَتْ يُحَيِّي اللَّهُ تَعَالَىٰ وَيُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَىٰ لَهُ
تَنْوِيرُ الْأَبْصَارِ أَوْ رَأْسِ كِي شَرْحِ دُرِّ مَحْتَارٍ مِمَّنْ هُوَ :-

(وَيَقْضَىٰ بِالْفَاطِظِ التَّشَهُدِ) مَعَانِيهَا مُرَادَةٌ لَهُ عَلَى وَجْهِ الْإِنْشَاءِ
كَانَتْ يُحَيِّي اللَّهُ تَعَالَىٰ وَيُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّهِ وَعَلَى نَفْسِهِ وَأَوْلِيَاءِ اللَّهِ (لَا الْخَبْرَ)
عَنْ ذَلِكَ ذَكَرَهُ فِي الْمُجْتَبَىٰ لَهُ

علامہ حسن شرنبلالی مرقی الفلاح شرح نور الایضاح میں فرماتے ہیں :-

يَقْضَىٰ مَعَانِيهَا مُرَادَةٌ لَهُ عَلَى أَنَّهُ يُنْشِئُهَا تَحْيِيَةً وَسَلَامَةً

اسی طرح بہت علماء نے تصریح فرمائی، اس پر بعض سفہائے مشرکین یہ عذر گڑھتے ہیں کہ صلوة و سلام پہنچانے پر بلائیکہ مقرر ہیں تو ان میں نذر جائز اور ان کے ماوراء میں ناجائز حالانکہ یہ سخت جہالت بے مزہ ہے، قطع نظر بہت اعتراضوں سے جو اس پر وارد ہوتے ہیں، ان ہوشمندوں نے اتنا بھی نہ دیکھا کہ صرف درود و سلام ہی نہیں بلکہ امت کے تمام اقوال و افعال و اعمال روزانہ دو وقت سرکارِ عرش و قارہ حضور سید البر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کئے جاتے ہیں۔ احادیث کثیرہ میں تصریح ہے کہ مطلقاً اعمال حسنہ و سنیہ سب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور یونہی تمام

۷۲ ص	۱ ج	مطبوعہ نورانی کتب خانہ، پشاور	۱۷	۷۲ ص	۱ ج	مطبوعہ نوری کتب خانہ، پشاور	۱۷	۷۲ ص	۱ ج	مطبوعہ نوری کتب خانہ، پشاور
۳۲۲ ص	۱ ج	مطبوعہ بیروت	۱۷	۳۲۲ ص	۱ ج	مطبوعہ بیروت	۱۷	۳۲۲ ص	۱ ج	مطبوعہ بیروت
۳۳۷ ص	۵ ج	مطبوعہ دارالمعرفۃ، بیروت	۵ ج	۳۳۷ ص	۵ ج	مطبوعہ دارالمعرفۃ، بیروت	۵ ج	۳۳۷ ص	۵ ج	مطبوعہ دارالمعرفۃ، بیروت
		مرقی الفلاح مع شرح الطحاوی (مطبعة الانزہریہ، مصر) ص ۱۶۵				مرقی الفلاح مع شرح الطحاوی (مطبعة الانزہریہ، مصر) ص ۱۶۵				مرقی الفلاح مع شرح الطحاوی (مطبعة الانزہریہ، مصر) ص ۱۶۵

انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور والدین و اعزاز و اقارب سب پر عرضِ اعمال ہوتی ہے۔ فقیر نے اپنے رسالہ سلطنت المصطفیٰ فی ملکوت کل الوری میں وہ سب حدیثیں جمع کیں یہاں اسی قدر بس ہے کہ امام اجل عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی:

لَيْسَ مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَتُعْرَضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْمَالُ
أُمَّتِهِ غَدَوَةً وَعَشِيًّا فَيُعْرِضُ فِيهَا لَهُمْ وَأَعْمَالَهُمْ لَهُ

یعنی "کوئی دن ایسا نہیں جس میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعمالِ امت ہر صبح و شام پیش نہ کئے جاتے ہوں تو حضور کا اپنے امتیوں کو پہچاننا ان کی علامت اور ان کے اعمال دونوں وجہ سے ہے،" صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و علی آلہ و صحبہ شرف کرم، فقیر غفر اللہ تعالیٰ لہ بتوفیق اللہ عزوجل اس مسئلے میں ایک کتاب مبسوط لکھ سکتا ہے مگر منصف کے لئے اسی قدر اتنی اور خدا ہدایت دے تو ایک حرف کافی۔

اَكْفِنَا شَرَّ الْمُضِلِّينَ يَا كَافِي وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
الشَّافِي وَالْاِي وَصَحْبِهِ حُمَاةَ الدِّيْنِ الصَّافِي اَمِيْن وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

عبدہ المذنب احمد رضا البریلوی
کتبہ
عفی عنہ بجز المصطفیٰ النبی الام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

محمدی سنی حنفی قادری
عبدالمصطفیٰ احمد رضا خاں

مولانا قاضی غلام حسین رحمہ اللہ تعالیٰ (دیرہ غازیخان) کے نام امام احمد رضا بریلوی کا یہ مکتوب جناب
اسد نظامی کے توسط سے ملا، آئندہ صفحات میں اس مکتوب کا عکس ملاحظہ کیا جائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

امام احمد رضا بریلوی کا غیر مطبوعہ مکتوب

ملاحظہ مولانا المکرم ذی المجد والکرم مولوی قاضی غلام حسین صاحب زید مجدہم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

لطف نامہ تشریف لایا، ممنون یاد آوری فرمایا۔ مولانا! زمانہ غربتِ اسلام ہے بداً الاسلام
غریباً وسیعود کما بدأ فطوبی للغریاء غربت کیلئے کس میسرسی لازم ہے، بیٹیوں میں عوام کی توجہ نہو
لعب و ہزل کی طرف اور بد مذہب رافضی ہوں یا دہلوی یا قادیانی یا آریہ یا نصاری، سب اپنے
اپنے مذہب کی نصرت و حمایت و اشاعت میں کمر بستہ ہیں، مال سے اعمال سے اقوال سے بیٹیوں
کو کون پوچھتا ہے، وقت ہی شیوعِ ضلالت کا ہے، ان کو اگر کوئی آدمی بات کہے جامہ سے
باہر ہوں، ماں باپ کو گالی دے اس کے خون کے پیاسے ہوں، اُس وقت تہذیب بالائے
طاق رہتی ہے، ساری تہذیب اللہ عزوجل اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل برتی جاتی
کہ ان کو منہ بھر کر گالیاں دینے والے لکھ لکھ کر چھاپنے والے جو چاہیں بکھیں، ان بکنے والوں کا نام ذرا
بے تعظیمی سے لیا اور نام مذہب درشت گو کا نعلت عطا ہوا، یہ حالت ایمان ہے انا للہ وانا الیہ راجعون،
ایسوں کے نزدیک تو معاذ اللہ! قرآن عظیم بھی نام مذہب ہے فَلَا تُطْعَمُ کُلَّ حَلَا فِ
مِہِیْنِ هَمَّازٍ مَّشَآءٍ بِنَمِیْمٍ مَّشَآءٍ لِلْخَیْرِ مُتَّعِدٍ اِنْ شِیْمٍ عَتِلٌ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِیْمٍ =
یا ایتھا التبیٰ جاہد الکفار و المنفیقین و اغلظ علیہم = وَقَاتِلُوا الَّذِیْنَ
یَلُوْنُکُمْ مِنَ الْکُفَّارِ وَ لَیَجِدُوْا فِیْکُمْ غِلْظَةً وَّ ذُوْا لُوْ تَدُوْنُ مِنْ فِیْ دِہِنُوْنَ = وَلَا
تَاْخُذْکُمْ بِہِمَّا رَافِقَةٌ فِ دِیْنِ اللّٰہِ۔


تَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ يُغْفِرَ الْإِثْمَ وَاللَّوْمَ وَالنُّجُورَ وَيُؤْتِيَ مِمَّا تَدْرُسُونَ ۝

بات یہ ہے کہ اللہ ورسول کی عزت قلوب میں بہت کم ہو گئی ہے۔ ماں باپ کو برا کہنے سے دل کو درد پہنچتا ہے، تہذیب بالائے طاق رہتی ہے نہ اس وقت اخوت و اتحاد کا سبق یاد ہے اللہ ورسول پر جو گالیاں بستی ہیں ان سے دل پر میل بھی نہیں آتا، وہاں نجس پری تہذیب آڑے آتی ہے۔ اللہ اسلام دے اور مسلمانوں کو توفیق خیر عطا فرمائے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ،

مہر انور جس کا ترجمہ ہے وہ فقہ اکبر نہیں ایک نامعتبر رسالہ مولوی صاحب مرحوم کو ہاتھ لگ گیا تھا، فقہ اکبر وہ ہے جس کی شرح علی قاری و بحر العلوم و ابو المنہتی وغیرہم نے کی۔ فقیر کی چار سو تصانیف میں سے شاید ابھی سو بھی طبع نہ ہوئیں، ان میں وہ بھی ہیں جو اس ضرورت کو باذنہ تعالیٰ پورا کرنے والی ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، طبع فتاویٰ کا سلسلہ بعونہ تعالیٰ پھر شروع ہوا ہے۔ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔

تاریخ خبر پر افطار حرام محض ہے، افطار بالتحری، تحری غروب میں ہے نہ کہ تحری ہلال، یہاں تو یہ ارشاد ہے کہ هُوَ مَوْلَا لِرُؤْيَيْهِ وَ أَفْطَرُ وَ لِرُؤْيَيْهِ اور صاف ارشاد ہے کہ ان الله هداه للرؤيته آج تک تمام جہان میں کوئی اس کا قائل نہیں کہ نہ رؤیت ہو نہ شہادت، تحری کر کے عید کریں، جاء واحد من خارج المعصر پر اس کا قیاس محض جہل ہے۔ اس رسالہ کے مصنف کون بزرگ ہیں؟ خیر کوئی بھی ہوں مگر تاریخ پر افطار کا حکم اختراع فی الدین ہے، مدت ہوئی کلکتہ میں ایک فتوے میرا اس بارہ میں طبع ہوا تھا ایک ہی نسخہ اس کا باقی ہے حاضر کرتا ہوں، رسید و خیریت سے مطلع فرمائیے۔ والسلام

فتوے اب رہا نہیں رسالہ جب طبع ہو تو اس میں اسے بھی شامل فرمائیں اس میں اور جگہ کی مہر بھی ہیں۔ فقیر احمد رضا قادری





بسم اللہ الرحمن الرحیم
محمد وفضل علی رسولہ الکریم

بملاحظہ مولانا ابوالکریم ذی البجوار والکریم مولانا مفتاحی غلام حسین صاحب مدظلہ العالی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لطف نامہ تشریف لایا ممنون باد آؤں فرمایا
مولانا زمانہ غربت اسلام کریدنا الاسلام غریبا وسمیو کما بدرا فظہری للخواہ
غربت کیلئے کہیں کسی لازم کسینوں میں مولانا کی توجہ ہو وگرنہ کبھی کبھی ہر
پورہ مذہب رافضی ہوں یا وہابی یا قادیانی یا آریہ یا نقاری سب انہی پرانی
مذہب کی نفرت وحماسیت وامتاعت دین کر سکتے ہیں حال سے اعمال سے اقوال
سے سفینوں کو کون کو چھتا ہے وقت ہے شروع ضلالت کا ہے انکو اگر کوئی آگیا
کے چاہے سے باہر ہیں ماننا ہے کہ گالی دے کر اسے خون کے پیاسے ہوں اور وقت
تہذیب باللی طاق رہتی ہے ساری تہذیب اللہ عزوجل پور حضور سید عالم صلوات اللہ علیہ
علیہ وسلم کے مقابل برائی طاقی ہے کہ انکو مٹھ کر گالیوں کا لیان دینے والے کھٹکے کھٹکے
والے جو پائین بلکین ان کے والوں کا نام ذرا بے تعظیم سے لیا اور نام مذہب
وشرکت کو کا فحوت عطا ہوا یہ حالت ایمان پرانا اللہ وانا اللہ ارجعون
الہون کے نزدیک تو معاذ اللہ قرآن عظیم بھی نام مذہب پر ولا تطلع کل جلا

مصیبت ہمارے مشاعرے بنیہ مناع الخیر معتمد انہم عقل لعبدک
 ز نیر یا یہا الذی جاہلہ الکفار والمنفقین واغلظ علیہم
 قاتلوا الذین یلوونکم من الکفار ولیحیدوا
 فیکم غلظۃ وروا الوتدھن فیدھنوت ولا تاخذکم

بھاسا افة فی دین اللہ تقر لوالی اللہ بیغض الی المعاصم والقوم
 یوجہ مقفدہ بات یہ ہر کہ اللہ در حل کی عزت قلوب میں بہت کم ہو گئی ہے مان با
 سر براکت سے دل کو درد پینے سے تہذیب باللائم طاق پرستی پر نہ اور وقت اوت
 و اتحاد کا سبق ہا یہ اللہ در سول سر جو کا لیان برستی میں اوزے دل میں
 بھی نہیں آتا و مان نبوی تہذیب سے آئی ہر اللہ اسلام دی اور مسلمانوں کو
 توفیق فریطا قوائے وسیعہ الذین ظلموا ای منقلبت بنقلیون
 مہر اور جگہ تہذیب سے وہ فقہا کہ نہیں ایک نامتبریرا اسلام میں ہر قوم کو ملکہ
 لگ گیا تھا فقہا کہ وہ ہر حکم شہ علی قاری و ہر العلوم و ابو المنقہی و ہر حکم
 کی فقیر کی جاہر و تھا نیف میں سے شہ یار بھی سو بھی طبع نہیں انہیں بھی

میں جو اس صورت کو باذن تعلقہ پورا کر نیوالی میں جسکی طرف آئینے اشارہ کہ
 طبع فتاویٰ کا سلسلہ بعونہ تعلقہ پیر شرح ہدایہ و حسنا اللہ و نعم الوکیل
 تارکی خبر یہ افطار و اہم لفظ ہر افطار بالتحریری تحریری غور میں ہر نہ کہ تحریری لفظ
 ایمان تو یہ ارشاد ہے کہ صوم الرزقیتہ و افطار الرزقیتہ اور صاف ارشاد ہے
 کہ ان التذیبہ للرذیۃ اجتنب تمام جہان میں کوئی ارکان نہیں
 کہ نہ ثبوت ہونہ شہادت تو کیا عید کر لین جاوہ احد میں خارج
 اکتھریہا قیاس لفظ پہلے اس رسالہ کے مصنف کوئی بزرگ
 میں خبر کوئی بھی پہلے تار افطار کا حکم اشراف فی الدین سم مدت ہو
 کلکتہ میں ایک فتویٰ میرا اس بارہ میں طبع ہوا تھا ایک ہی نسخہ اور
 باقی سے حاضر کرتا ہوں رسید فریبت سے مطلع فرمائے والسلام
 فتویٰ اب رہا نہیں رسالہ جب طبع ہوا تو اس میں اسے بھی شامل کر دیا
 اس میں اور گلہ کی مہین بھی ہیں فتویٰ میرا ہر جگہ غفر عنہ



اپیل

- ۱۔ فرائض و واجبات کی ادائیگی کو ہر کام پر اولیت دیجئے۔ اسی طرح حرام اور مکروہ کاموں اور بدعات سے اجتناب کیجئے کہ اسی میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔
- ۲۔ فریضہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ تمام ترکوشش سے ادا کیجئے کہ کوئی ریاضت اور ان فرائض کی ادائیگی کے برابر نہیں ہے۔
- ۳۔ خوش اخلاقی، حسن معاملہ اور وعدہ وفائی کو اپنا شعار بنائیے۔
- ۴۔ قرض ہر صورت میں ادا کیجئے کہ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں لیکن قرض معاف نہیں کیا جاتا۔
- ۵۔ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے اور اس کے مطالب سمجھنے کے لیے کلام پاک کا بہتر ترجمہ کنز الایمان از امام احمد رضا بریلوی پڑھ کر ایمان تازہ کیجئے۔
- ۶۔ دینِ میتین کی صحیح شناسائی کے لیے اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاں بریلوی اور دیگر علماء اہل سنت کی تصانیف کا مطالعہ کیجئے۔ جو حضرات خود نہ پڑھ سکیں وہ اپنے پڑھے لکھے بھائی سے درخواست کریں کہ وہ پڑھ کر سنائے۔
- ۷۔ فاتحہ، عرس، میلاد شریف اور گیارہویں شریف کی تقریبات میں کھانے اور پھلوں کے علاوہ علماء اہل سنت کی تصانیف بھی تقسیم کیجئے۔
- ۸۔ ہر شہر اور ہر محلہ میں لائبریری قائم کیجئے اور اس میں علماء اہل سنت کا کیجئے کہ تبلیغ دین کا اہم ترین ذریعہ ہے۔
- ۹۔ ہر شہر میں سستی ٹریچر فراہم کرنے کیلئے کتب خانہ قائم کیجئے یہ تبلیغ بھی ہے اور بہت سستا۔
- ۱۰۔ مرکزی مجلسِ رضا لاہور کی رکنیت قبول کیجئے، رکنیت فارم مجلس کے دفتر سے طلب کیجئے۔

مرکزی مجلسِ رضا لاہور پوسٹ بکس نمبر ۲۲۰۶